

# خطبہ تبوک

(حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک  
بمقام تبوک - عزوه تبوک رجب ۱۴۹)

مترجمہ از  
سید عبد القدوں پاٹنسی

اجراہ تحقیقات اسلامی

اسلام اباد

✓  
1947-5

✓ 215

✓ 0049

✓ 1947-5

✓ 0049

DATA ENTERED

## خطبہٗ تبوک

اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ اس فوجی سهم کو کہتے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، اور سریہ ان مہمات کو کہا جاتا ہے جن میں خود آپؐ نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ آپؐ نے کسی صحابی کی سرکردگی میں فوجی سهم روانہ کی ہو۔ اس طرح عہد نبوت کی ماری دفاعی فوجی مہمات کو دو قسموں پر منقسم کر دیا گیا ہے اور انہیں اصطلاحی نام غزوات و سرایا دے دیئے گئے ہیں تاکہ ان دونوں قسموں کی مہمات میں امتیاز قائم رہے۔

غزوہ تبوک عہد نبوت کا آخری غزوہ ہے۔ چونکہ کچھ دنوں سے حجاز میں سخت قحط تھا اور صحابہ بڑی تنگدستی و عسرت میں مبتلا تھے اس لئے اس غزوہ کو غزوۃ العسرا اور جیش العسرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس غزوہ میں آپؐ ماہ رجب ۹ ہجری مطابق اکتوبر و نومبر ۶۳۴ میں تیس ہزار صحابہ کو لیکر مقام تبوک تک تشریف لئے گئے اور بیس دن تک وہاں قیام پذیر رہ کر واپس مدینہ تشریف لائے تھے اس لئے اسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔

تبوک دمشق سے مدینہ جانے والی ریلوے لائن کا ایک اسٹیشن ہے۔ یہ اس وقت سعودی عرب کا شام کی سرحد پر تقریباً آخری حصہ ہے جو مقام تیمائے سے ۳۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اور اب بھی تبوک ہی کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پہاڑیوں سے گھرا ہوا ایک وسیع میدان ہے جس میں مسلمانوں نے غزوہ تبوک کے وقت قیام فرمایا تھا۔

اس غزوہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ بنو غسان اور رومی شہنشاہی کی افواج کے مجمع ہونے کی اطلاع جس پر یہ دفاعی تدبیر اختیار کی گئی تھی وہ اطلاع صحیح نہ تھی۔ رومی فوجیں دمشق سے آگئے نہیں گئی تھیں اور بنی غسان، لخم اور بنو جذام کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کے لئے ابھی اکٹھے نہیں ہونے پائے تھے۔ دشمنوں کے حوصلے پر وقت دفاعی تدبیر کی وجہ سے پست ہو گئے۔ اور مقابلہ کی نوبت نہ آئی۔ آپ ص نے زمانہ قیام تبوک میں رومیوں کے زیر نگین ریاستوں سے صلح خانسے کر لئے اور انھیں امن کی برقراری کا پابند بنالیا۔

غزوہ تبوک کی تفصیلات اور اس کے نتائج کا ذکر اس وقت مقصود نہیں ہے بلکہ مقصد صرف اس خطبہ کا ذکر ہے جو آپ ص نے مقام تبوک میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خطبہ حمد باری تعالیٰ کے بعد صرف پچاس مختصر فقرات پر مشتمل ہے مگر ہر فقرہ ایک گوہر آبدار ہے اور حضرت افصح العرب و العجم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ فصاحت و بлагت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ فصاحت کا یہ عالم ہے کہ ہر لفظ ایک تابناک سوتی ہے اور بlagt کا یہ حال ہے کہ انسانی کردار کا کوئی پہلو نہیں جو اس کے احاطہ سے باہر ہو۔

ہم یہ سنتیہ مع ترجمہ و مختصر تحریح پیش کرتے ہیں اور اس اقرار عجز کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ان بلیغ فقروں کا صحیح ترجمہ اور پوری تحریح پیش کرنا محال کی حد تک مشکل ہے۔

آپ ص نے اللہ جل جلالہ کی حمد کے بعد فرمایا :-

اما بعد :

(۱) فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثَ كِتَابَ اللَّهِ      بِلَا شَبَهٍ سَبْ سَبْ سَبْ سَبْ زِيَادَه سَجِيَ بَاتِ  
اللَّهِ كِيَ كِتَابَ (قُرآن مجید) ہے۔

اگر کوئی بات مطابق واقعہ ہو تو اسے سچی بات کہا جاتا ہے۔ انسان کا علم ناقص بھی ہے اور غیر محيط بھی۔ پھر ماضی و حال کا علم تو انسان کو

کچھ لہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے لیکن مستقبل کے واقعہ کا علم کسی انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یقیناً سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہو سکتی ہے جس کے حضور میں ماضی و مستقبل دونوں ہی حاضر ہیں۔ وہ نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ کوئی ذرہ اس کے علم محیط سے باہر ہے۔

## (۲) واثق العری کلمۃ التقوی اور سب سے مضبوط حلقة زنجیر تقوی کا ایک لفظ ہے

تقوی قلب انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے افکار و اعمال میں خالق کائنات کی نافرمانی اور ہر قسم کی بے اعتدالی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ بلند سے بلند مقام پر پہنچ جائے۔ اس بلند مقام پر چڑھنا مشکل کام ہے آدمی اس کے لئے زنجیر کا سہارا لیتا ہے تاکہ کہیں اس کا پیر نہ پہسل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زنجیر کا وہ حلقة کمزور ہو اور ٹوٹ جائے تو کیا ہو۔ اس لئے آدمی مضبوط ترین حلقة زنجیر کی تلاش کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ”سب سے مضبوط حلقة زنجیر تقوی ہے“، اگر تم اس حلقة کو پکڑے رہو گے تو اس کے ٹوٹ جانے کا کوئی خطرہ نہیں کہ تم مقام رفیع پر پہنچنے کی بجائے قدر مذلت میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔

ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس اصول کو آزمای کر دیکھئے۔ کتنی اچھی تشبیہ ہے۔ اگر تقوی سے قلب خالی ہو تو کوئی دوسری زنجیر اور اس کے حلقوے انسان کو کہاں کام آتے ہیں۔ ابھی سر بلندی و نام وری کے مقام اعلیٰ پر نظر آرہے تھے اور اک ذرہ بے اعتدالی ہوئی تو ذلت و رسوانی نفرت و حقارت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نہ گھر کی زندگی خوشگوار رہتی ہے اور نہ باہر کی۔ بے کیوں ہوتا ہے صرف اس لئے کہ ہم تقوی کے مضبوط حلقة زنجیر کو چھوڑ کر کسی اور ڈوری کے ذریعہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے اوپر

جانے کے لئے سہارا بنایا تھا اقتدار کو، صاحب اقتدار کو، دولت کو، ثروت اور حکومت کو، یہ زنجیریں مضبوط نہیں ہیں ذرا سے کھینچ تان میں ٹوٹ جاتی ہیں اور ہم گر جاتے ہیں ۔

(۲) وَخِيرُ الْمُلْلٰهُ مُلْتُ ابْرَاهِيمَ - اور بہترین ملت ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت ہے ۔

اس ایک بلیغ جملہ کی تشریح کی جائے تو شاید ایک دفتر ہو جائے ۔ مختصرًا یہ سنئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی تھی ۔ اسی عقیدہ کا نتیجہ تھا کہ وہ نمود اور اس کے مانند والوں سے الگ ایک ملت کے امام قرار پا گئے ۔ اس طرح دونوں ملتیں الگ الگ ہو گئیں ۔ ایک ملت ابراہیمی اور دوسری ملت نمودی ۔ ملت نمودی کی بنیاد اقتدار دنیاوی اور حاکمانہ قوت کی نمود پر قائم ہے ۔ اور ظاهر ہے کہ اقتدار و حکومت کسی ایک نسل کے ہاتھوں میں یا ایک محدود رقبہ وطن کے اندر ہو سکتی ہے ۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس وطن کا یا اس نسل کا سربراہ ہو گا اسے معبد و مسجد کا مقام حاصل ہو جائے گا ۔ اس کا نام مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتا ہے ۔ کہیں نمود، کہیں فرعون، کہیں جمشید، کہیں رام چندر، کہیں مسولینی، کہیں هتلر، اور کہیں لینن و اسٹالن، اور اس کے مقابلہ میں افراد انسانی کا مقام ہل چلانے والے بیلوں سے اونچا نہیں ہو سکتا ۔

ملت نمودی میں اسی لئے متعدد ملتیوں کا تصور پیدا ہوتا ہے ۔ کہیں پروشین نسل سے ایک ملت وجود میں آتی ہے اور کہیں عربی نسل سے ۔ کبھی ایک رقبہ زمین سے ایک ملت وجود میں آتی ہے اور کبھی دوسرے رقبہ زمین سے ۔ پھر ملت نمودی سے پیدا شدہ یہ ساری ملتیں ایک دوسرے کا استحصال کرتی ہیں ۔ اور اس کے بعد ٹکراؤ ہوتا ہے ۔ خون کی ندیاں ہنے

لگتی ہیں - بم برستے ہیں، مسہاگ لنتے ہیں، بچے نیزوں پر اچھالے جاتے ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے - عوام چاہے کہیں کے ہوں اور کسی عقیدہ و مسلک کے حامل ہوں، استھصال اور بداری کو پسند نہیں کرتے لیکن ملت کی بنیاد جب نسل یا وطن پر رکھی جاتی ہے تو اس کے لیڈر دوسرے انسانوں ہی کے اعزاز و اکرام سے نہیں بلکہ خود اپنے عوام کی عزت و آبرو اور امن و اطمینان سے غافل ہو جاتے ہیں -

اس کے بخلاف ملت ابراہیمی کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے عقیدہ توحید کے دو رخ ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا اور ساری کائنات کا خالق ایک اور صرف ایک ہے - ہم اس کے حکم سے سرمو تفاوت نہیں کرسکتے، ہمارا ہر عمل صرف اللہ ہی کے لئے ہونا چاہئے - ایک جہاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو زیر کر لیا اور اس کے سینہ پر بیٹھ کر اس کا سر کاٹ دینا چاہتے تھے کہ اس نے حضرت علی رضی کے سنه پر تھوک دیا، اس کے بعد حضرت اس کے سینہ سے اتر گئے - جب اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا - تو فرمایا کہ میں تجھکو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا کے لئے قتل کر رہا تھا، جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو مجھے اپنی توهین پر غصہ آگیا، اور کسی انسان کو میں اپنی خوشی کے لئے تو قتل نہیں کرسکتا -

عقیدہ توحید کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق ہونے کی حیثیت میں برابر ہے - اس حیثیت سے نہ ہم اس سے بہتر ہیں اور وہ ہم سے برتر - اس عقیدہ سے جہاں انسان میں عزت نفس کا تصور ابیرتا ہے وہاں دوسروں سے محبت کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے - یہی عقیدہ ہے جو آدی تو آدی، جانوروں کے ساتھ بے رحمی کرنے سے بھی ہمیں روکتا ہے - دشمن کی کھیتیوں کو ویران کرنے، باغوں کو کاٹ کر پامال کرنے سے ہمیں باز رکھتا ہے -

غرض یہ کہ ملت ابراہیمی کی بنیادیں نہ نسل پر قائم ہیں نہ وطن پر، نہ زبان پر قائم اور نہ رہن سہن پر، یہ سب بنیادیں ملت نمرودی اور حکمت فرعونی کی بنیادیں ہیں - علامہ اقبال مرحوم نے اسے یوں بیان کیا ہے :

از نسب بنیاد تعمیر اسم با وطن وابستہ تقدیر اسم  
ملت ما را اساس دیگر است آن اساس اندر دل ما مضمرا است

ذرا غور کیجئے، کتنی غیر حقیقی اور غیر عقلی ہیں ملت نمرودی کی بنیادیں - ابھی تیس بتیس سال پہلے تک انگریزوں کے اقتدار نے پاکستان، ہندوستان، برماء، سری لنکا، بلکہ عدن تک کو ایک وطن بنا رکھا تھا۔ اور ابھی کل کی بات ہے کہ وطن پاکستان کی حدود میں ڈھاکہ، چائٹگام اور سلمہ بھی داخل ہی تھے۔ کیا اقتدار کے اس پہیلو کو وطن کا نام دے کر کسی ملت کی اساس قرار دینا دانائی کھا جا سکتا ہے۔ وطن صرف ایک انتظامی وحدت ہوتا ہے ایک انتظامی اقتدار کے ماتحت جتنا ربہ زمین ہوتا ہے اس کا نام وطن رکھ لیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ وطن کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اس کو قلبی تعلق اور ہم آہنگی کی اساس قرار دے کر ایک ملت کی بنیاد بنادیا جائے تو اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم آہنگی کا دائڑہ۔ ایک ملک سے ایک صوبہ، ایک صوبہ سے ایک ضلع اور ایک ضلع سے ایک گاؤں تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔

یہی حال نسل کا ہے۔ اپنا بھائی پیارا۔ چچا کا بیٹا اس سے کم پیارا۔ دادا کے بھائی کی اولاد اس سے بھی کم۔ تین چار پشتون میں قلبی تعلق کمزور ہوتے ہوتے بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان اور رہن سہن کے طور طریقے بھی ملت کے لئے کوئی بنیاد سہیا نہیں کرتے۔ زبان صرف افہام و تفہیم کا ذریعہ ہے اور رہن سہن کے طریقے ماحول کے اثر سے ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں یہ قوت نہیں ہے کہ ایک انسان کو دوسرے

انسان کے دل سے قریب تر کردیں اور اس قربت کو تا بد دیر باقی بھی رکھ سکیں۔ ثقافت اور کلچر کا کلمہ پڑھنے والے فکری و دماغی قوت کے اعتبار سے کمزور اور مفلس لوگ ہیں۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہتے۔ انسان صرف عقیدہ اور عمل کی بنیاد پر ہم آہنگ قائم رکھ سکتا ہے۔ اس کے سوا جو ہم آہنگ دکھائی دیتی ہے، اس کی حیثیت چوروں کے اتحاد سے زیادہ کچھ نہیں۔ چور چوری کرنے کے لئے اتحاد قائم کر لیتے ہیں، اور ایسا اتحاد قائم کر لیتے ہیں کہ کسی مخلص وطنی حکومت کے وزیروں میں بھی ایسی ہم آہنگ اور نظم و ضبط نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن چوری کا مال تقسیم کرتے وقت اکثر یہ اتحاد باقی نہیں رہتا۔

آپ اس بلیغ جملہ پر کہ ”سب سے بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے“، جس قدر غور کریں گے۔ اور دنیا کے حالات کو اس کی روشنی میں دیکھیں گے، آپ پر اس کی صداقت کھلتی جائے گی۔

(۲) و خير السنن سنة محمد اور بہترین سنت محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی سنت (طیبہ) ہے۔

سنت کے معنی ہیں وہ پگڈنڈی جو کسی کے چلنے سے ریت یا نرم زمین پر بن جاتی ہے۔ دیہاتوں میں اس پگڈنڈی (یعنی کچے راستہ) کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر آدمی غلط پگڈنڈی پر پڑ جائے تو نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ اور عرب کی ریتیلی زمین میں ریت پر نشان پا ہی سب کچھ ہے۔ غلط راہ پر کوئی پڑ جائے تو بے آب و دانہ صحراؤں میں اپنی جان ہی گنوایا یٹھے گا۔ اس جگہ سنت محمد سے مراد زندگی بسر کرنے کا وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم سے بن کر تیار ہوا ہے۔

دنیا میں کڑوروں ہی آدمی پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کمانے کھاتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے کتبوں

ہمسایوں، ہم وطنوں اور سارے ہی انسانوں کی خدستیں کرتے ہیں - اور ایک وقت آتا ہے کہ اس دنیا سے چلنے جاتے ہیں - ان کو چھوڑنے جو ظلم و تعدی کرتے ہیں، قتل و خونریزی کو بیشہ بنالیتی، چوری، ڈاکہ اور فربیب سے روزی کھاتے ہیں - اچھوں ہی کو لیجئے جنہیں ہم آپ سب اچھے کہتے ہیں - ان کی زندگی بسر کرنے سے یا دوسرے لفظوں میں ان کے نشان قدم بے زندگی کی جو راہ ستعین ہوتی ہے یا جو پگڑنڈی نہ کرتیار ہوتی ہے - اس پر غور تو کیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ایک آدی بھی ایسا اس دنیا میں آیا ہے جس کی زندگی ہر پہلو سے مکمل اور کامیاب ہو اور جس کو ہم اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں اور مختلف حیثیتوں میں نمونہ زندگی بنا سکیں؟ دنیا میں ہوت سے بزرگ آئے اور بعض بعض پہلوؤں سے انہیں ہترین نمونہ یہی خدا کی یاد میں اپنے آپ کو غرف کر دیا - بڑا کام کیا، لیکن معصوم بھے کا قرار دیا جا سکتا ہے - مثلاً خضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے سیکڑوں سال پہلے ایک بزرگ دنیا میں آئے انہوں نے راج پلٹ چھوڑ، یہوی بچہ سے نہ سوڑ کا باب کھہاں گیا - عصمت مأب یوی کا شوهر کھہاں گم ہو گیا - بڑھے باب کا سعید بیٹا کھہاں چھپ گیا - خدا کی یاد اور سب حقداروں کو بھلا کرو؟

اسی طرح اور نمونے بھی ملیں گے مگر محض یک رخ، ایک پہلو سے ہترین اور دوسرے پہلو سے تاقص - ایک بزرگ ملیں گے سچے، راستباز، نیکوکار مگر نہ شادی کی، نہ بچے دیکھئے، نہ خوشی سے واسطہ پڑا، نہ غم ہے - نہ کسی مظلوم کا حق ظالم سے دلا دیا اور نہ ظالم سے نکر ل - بڑی ہی قابل تعریف زندگی ہے مگر ان کے نشان یا سے بنی ہوئی سنت (پگڈنڈی) انسانوں کے لئے ہترین سنت نہیں ہو سکتی -

اب ذرا سنت محمد ص کو دیکھئے - اچھے جوان، صادق و ایبن، اچھے شوہر اچھے باپ، اچھے تاجر، اچھے دوست، رحم دل، نیکو کار، سخنی اور حلیم، اتنے

کا پیغام سنانے والے - ظلم کا بدلہ دعاؤں سے دینے والے - خطاکار سے درگزر کرنے والے، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولی، اور اسی کے ساتھ بہترین سردار، اعلیٰ درجہ کے سپہ سالار، حاکم عادل - اتنے غریب کہ کئی کئی وقت مسلسل فاقہ ہوجائے اور اتنے دواتِ مند کہ مسجد نبوی میں طلائی اشرفیوں کے ڈھیر لگ جائیں ۔

اتنی جامعیت اور ایسی کاملیت کہاں ملے گی۔ اگر ان کی سنت خیر السنن نہ ہوگی تو کس کی راہ زندگی خیر السنن قرار پائے گی۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ آپ ص نے یہ خطبہ و هجری کے ماہ رجب میں دیا ہے جب کہ آپ ص کی زندگی کا باسٹھوان سال ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے اور آپ ص کے زیر نگین تقریباً سارا ہی عرب آچکا ہے۔ اس فقرہ کی نوعیت صرف دعویٰ کی نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت کی ہے۔ ان تیس ہزار بزرگوں میں سے بہت سے وہ حضرات ہیں جنہوں نے آپ ص کو زمانہ طفی سے اب تک مسلسل دیکھا ہے، اور بہت سے وہ ہیں جنہوں نے ابتدائی نزول وحی سے گزشته تقریباً ۲۲ ماں کا زمانہ آپ ص سے انتہائی قریب تر رہ کر بسر کیا ہے۔ سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آپ ص کی زندگی کا کونسا رخ پوشیدہ ہے؟ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ص کی سنت خیرالسنن ہے۔ آپ ص کے سامنے ہی نہیں بلکہ آپ ص کی وفات کے بعد بھی صحابہ ماری دنیا کو یہی پیغام دیتے رہے کہ:

محمد کا رستہ نہ چھوڑو عزیزو یہی راستہ ہے ہمارا تمہارا  
(۵) واشرف العدیث ذکر اللہ۔ اور سب سے اشرف بات اللہ کی یاد ہے۔

باتیں تو ہم آپ سب ہی کرتے رہتے ہیں اور صبح سے شام تک نہ جانے کتنا ہی باتیں کر جانے ہیں۔ اگر ان ساری باتوں کا ہم جائزہ لیں تو ان کی دو تسمیں بن جاتی ہیں، ایک وہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہمارے ذہن پر طاری ہوتی ہے اور دوسری وہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد

ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم میں ہماری وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا مقصد سنترے والے کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا یا اپنے لئے کوئی جائز فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ باتیں جھوٹ، غیبت، عیب جوئی، جھوٹی شیخی، اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے تقریباً پاک و صاف ہوتی ہیں۔ باتوں کی دوسری قسم یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی گفتگو میں یہ فائدہ یا وہ گوئی، فریب، استھصال ناجائز، کذب و افتراء اور ایسے ہی عیوب کی آمیزش ہوا کرتی ہے۔ افواہ ایسی ہی گفتگو سے پھیلا کرتی ہے۔ ہر شخص خود اپنی جگہ پر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ باشرف و باعزت گفتگو کس قسم کی گفتگو کو کہا جا سکتا۔

(۶) و احسن القصص هذا القرآن۔ اور سب سے اچھا قصہ یہ قرآن (مجید) ہے۔

کسی گزرے ہوئے واقعہ کی حکایت کو قصہ کہا جاتا ہے۔ قصہ کہانیوں کا ذوق ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ آپ یتی سے جگ یتی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے افریقہ کے 'بشن مین'، اور بانتو سے لے کر جامعات کے اساتذہ تک کسی نہ کسی قدر ذلچسپی قصہ کہانیوں میں لیتے ہیں۔ آدمی کی عادت و کردار کی صورت گری میں قصہ کہانیوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اچھے قصوں سے آدمی یہ جان لیتا ہے کہ غفلت و غلط روی کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اور چستی و هوشیاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فوائد صحیح طور پر اور پوری طرح صرف اسی وقت حاصل ہوسکتے ہیں جب کہ ان قصوں کے صحیح اور حقیقت سچ ہونے کا یقین یا کم از کم ظن غالب قصہ سنترے یا پڑھنے والے کو حاصل ہو۔ پہلے سے اگر یہ یقین موجود ہو کہ قصہ فرضی اور غلط ہے تو سنترے والا اس سے کوئی اثر نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نا پختہ دماغ نہیں بچے تو پریوں کی کہانی سے اثر پذیر ہوتے ہیں لیکن کوئی پختہ دماغ اور تعلیم یافتہ آدمی ان کہانیوں سے متاثر نہیں ہوتا۔

قصہ کا اصل مقصود ہی یہ ہے کہ متنه والا اس سے اثر لیے اور اپنی عادت و کردار کے سنوارنے میں اس اثر سے فائدہ بھی حاصل کرے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی قصہ کا کوئی اثر پختہ دماغ آدمی ہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قصہ کے سچ، حقیقی اور واقعی ہونے کا یقین قلب میں جاگزین نہ ہو۔

ہر مومن کا یہ ایمان و یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے تمام ترجیح ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجایش نہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں بیان کئے ہوئے قصے سے ہمیں جو فائدہ پہنچ سکتا ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اسی لئے قرآن مجید کو آپ ص نے احسن القصص فرمایا ہے۔

(۷) و خیر الامور عوازمها۔ اور سب سے اچھا کام وہ ہے جو پوری توجہ کے ساتھ صحیح طور پر کیا جائے۔

آپ کوئی کام کریں اسے پوری توجہ کے ساتھ صحیح طور پر انجام دیں اور استقلال کے ساتھ اس میں لگئے رہیں۔ اسی کو عوازم الامور سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ امور دنیا و دین، ہر کام کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لئے اپنے دل میں عزم و ارادہ پیدا کریں۔ اس کو پوری توجہ کے ساتھ پورا کریں اس میں سے کچھ کم نہ ہونے دیں، اور کوئی نئی بات (بدعت) اس میں نہ پیدا کریں۔ پھر یہ کہ آپ اس کام کو چھوڑ نہ دیں استقلال کے ساتھ اس میں لگئے رہیں۔ کام کی انجام دہی سے صحیح فائدہ آپ اسی طرح حاصل کرسکتے ہیں۔

مثلاً آپ کو بتایا گیا ہے کہ صبح کی نماز میں دو سنت اور دو فرض رکعتیں ہیں۔ آپ پوری توجہ اور اطمینان کے ساتھ یہ دو دو رکعتیں پڑھئے، اتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ نہ پڑھئے کہ رکوع و سجدہ کا پورا حق بھی نہ ادا ہو، اور نہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کر دیجئے۔ ہوسکتا ہے کہ

دن کی پہلی نماز میں صرف دو دو رکعتیں دیکھ کر آپ کے دل میں یہ شیطانی وسوسہ آجائے کہ ہم اسے چار چار رکعت بنادیں ۔ یہ شر الامور بدعت ہی نہیں بلکہ اللہ و رسول کی صریح نافرمانی ہوگی ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں صبح کی نماز دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض ہی سکھائی ہیں اور یہی صحیح ہے ۔

یہ صرف ایک مثال تھی، نماز ہی نہیں بلکہ اور تمام امور میں بھی ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ کام وہی ہے جو پوری توجہ کے ساتھ صحیح طور پر کیا جائے ۔ اور استقلال کے ساتھ اسے انجام دیا جائے ۔

(۸) و شر الامور محدثاتها ۔ اور سب سے برا کام وہ ہے جو اصل کام پر نیا اضافہ (یعنی بدعت) ہو،

عام طور پر لوگ مذہبی کاموں میں جدید اضافے کر لیا کرتے ہیں جن کی کوئی اصل شرعی احکام میں نہیں ملتی ۔ اس کے بعد جب ان کو اس کی طرف توجہ دلاتی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، اس طرح قوموں میں نئے نئے عقاید اور رسوم ڈھلتے رہتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ عقاید اور یہ بدعتی مراسم اصل دین کی جگہ لے لیتے ہیں ۔ سارا مذہبی نظام چند بدعتی مراسم کا مجموعہ ہو جاتا ہے ۔ اصل تعلیم و عقاید تو پیچھے چلے جاتے ہیں، سارا زور اس بدعت پر دیا جاتا ہے ۔ اس طرح قومیں آہستہ آہستہ رسم و رواج کی پابند ہو کر مذہب کی اصل روح سے بیگانہ ہو جاتی ہیں، عبادات میں بھی اور عام زندگی میں بھی ہر

اس کی مثال دنیا کی مختلف قوموں میں اور خود مسلمانوں میں بھی ہر روز اور ہر جگہ دیکھی جاسکتی ہے ۔ قرآن مجید نے رہبانیت کے متعلق یہ بتایا ہے کہ نصاری نے یہ نئی بات خود ہی پیدا کر لی، انھیں اس کا کوئی حکم کبھی نہیں دیا گیا تھا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر صحراؤں اور پہاڑوں میں مسکن بنالیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کر لیں

جس کے نتیجہ کے طور پر ان کی زندگی بے کار و بے معنی ہو جائے۔ پھاڑ کے پتھروں اور درختوں سے بھی کمتر درجہ پر جا پہنچیں اور زندگی سے افادیت بالکلیہ مفقود ہو جائے۔ لیکن نصاری ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی بزرگی اور ولایت کا معیار اسی بدعت کو قرار دے لیا۔ مسلمان اپنی زندگی میں غور سے بدعت کی کارفرمائی اور مراسم پرستی کو دیکھیں، عبادتوں میں کتنی بدعتوں کے ہم پابند ہیں۔ اور اجتماعی و عائلی زندگی میں مراسم پرستی نے ہمیں اصلی روح اسلامی سے کس قدر ییگانہ بنا دیا ہے۔

(۹) واحسن الہدی هدی الانبیاء اور سب سے اچھی راہ (راہ زندگی) انبیاء کی راہ ہے۔

دیکھئے میں یہ ایک مختصر سا فقرہ ہے لیکن عملی زندگی کے لئے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھیں، ہم جو کچھ جانتے ہیں اور جو اعمال کرتے ہیں ان کا تقریباً نوے فیصد حصہ وہ ہے جو ہم دوسروں کے اقوال و اعمال کو دیکھ کر حاصل کرتے ہیں اور اپنے لئے اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں اور اساتذہ کو جو کچھ کہتے ہوئے سنا اور کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی نقلیں اپنی ساری عمر کیا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کو اپنی زندگی کے ہر ہر موڑ پر رہنمائی کی ضروت محسوس ہوتی ہے۔ اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہماری عقلیں نسبتاً پختہ ہو جاتی ہیں اور ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ جو مثالیں زندگی کی ہمیں ملتی ہیں یا جو راہیں ہمیں دنیا کے عاقل و فلسفی دکھاتے ہیں یا جو صراط مستقیم ہمارے سامنے انبیائے کرام نے پیش کی ہے ان میں سے کونسی راہ بہتر ہے اور کسے ہم احسن قرار دے کر اختیار کریں۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اگر ہم نے اپنے لئے غلط راہ کا انتخاب کر لیا یا ایک ایسی راہ زندگی۔ ہم نے پکڑ لی جس پر چل کر کامیاب زندگی ہم بسر نہ کر سکے

تو یقیناً ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ اس گنجلک اور اہم سوال کا یہ جواب ہے کہ انبیائے کرام کی بتائی ہوئی راہ احسن اور اولی ہے، اسی کو اختیار کرو۔

انبیائے کرام کی بتائی ہوئی راہ کیوں سب سے اولی و احسن ہے۔ اس ہر غور کر لیجئے۔

زندگی کی راہیں تو ہمارے سامنے متعدد ہیں اور ایک دوسری سے مختلف و متنوع بھی ہیں۔ ایک وہ راہ ہے جو فلسفیان ما بعد الطبعیات نے بتائی ہے۔ ایک وہ ہے جو تارک الدنیا راہبوں نے دکھائی ہے، ایک وہ ہے جو زر انداز محبان دولت کی راہ ہے۔ ایک وہ ہے جو خود غرض فاتحین نے پیش کی ہے، ایک وہ ہے جو جہوئے مدعیان نبوت والوہیت کی راہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیائے صادقین نے ہمیں دکھائی ہے۔ اب یہ اور اس قسم کی اور بہت سی راہوں پر غور کیجئے، سوچیے اور اچھی طرح سوچیے، وہ کونسی راہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم دنیا میں خوش اور مطمئن زندگی بسر کرسکتے ہیں اور مرنے کے بعد اچھی اور خوشگوار زندگی کی امید کرسکتے ہیں۔ یہ تو ہر حال یقینی اور ناقابل انکار بات ہے کہ جس طرح اور سب لوگ مر گئے ہیں ہم بھی مر جائیں گے۔ اس لئے ہمیں راہ وہی اختیار کرنی چاہئے جو ہمیں اس عالم میں خوش و مطمئن زندگی بسر کرنے میں معاون ہو اور دوسرے عالم کی طویل زندگی میں خوش گواری کی کم از کم امید تو دلا سکے۔

فلسفیوں کی راہ اختیار کرنے سے نہ صرف روحانی خلاء پیدا ہو جاتا ہے بلکہ دل و دماغ کے مابین ایک نزاع دائمی پیدا ہو کر زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ خود ان فلسفیوں کی زندگیوں کو دیکھئے، قول و عمل میں تخالف، دل و دماغ کے مابین دائمی تنازع، شک بالائے شک اور عدم یقین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تارک الدنیا راہبوں اور سادھوؤں کی راہ کو دیکھئے۔ زندگی کا ہے کو ہوئی، نہ اپنے کام کی اور نہ کسی دوسرے کے کام کی، ایک صحرا نشین

سادھو کی زندگی اور اسی صحراء کے ایک تودہ ریگ میں کیا فرق ہے۔ پھاڑ کے پتھر اور صحراء کی جھاڑیاں بھی اس سے زیادہ کار آمد نظر آئیں گی۔ دوسری غیر معتدل زندگی ایک زر اندوز پرستار دولت کی زندگی ہے، ساری عمر غم سیم و زر میں بسر کی، نہ کبھی حرص پوری ہوئی اور نہ کبھی فکر دولت سے نجات مل سک۔ مگر اور سب کچھ یہیں رو گیا۔ پھر زندگی میں بھی محض دولت کیاں کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ دولت جمع کی اور پھر اس میں اضافہ کی فکر میں گھلتے رہے، نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ خدا کی راہ میں خرج کر کے آخرت کی سر بلندی حاصل کی۔ اس دولت میں اور سنگریزوں میں کیا

فرق رہا۔ ع

برائے نہادن چہ سنگ و چہ زر

دنیا کے بڑے بڑے فاتحین اور کشور کشاون کی راہ کو دیکھئے۔ خطرات میں گھری ہوئی کیسی بے چین زندگی ہے، جب تک جیتے رہے، اپنے لئے اور دنیا کے لئے مصیبت بنے رہے اور جب مر گئے تو ساری دنیا کی لعنتیں لے کر خالی ہاتھ رخصت ہو گئے۔

لا یا تھا کیا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے

تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے

ایک زندگی ہے جھوٹی مدعیان الوہیت، نبوت، ولایت و قیادت کی زندگی۔ کیسی نقلی اور بناؤنی زندگی ہے۔ ہر ہر منٹ نظر عوام سے گر جانے کا خطرہ، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، یقین کچھ اور عمل کچھ۔ جب دیکھئے ہر بن مو سے چندہ چندہ کی آوازیں آرہی ہیں۔ غیروں کی کمائی پر خوش حالی کا مدار، کاہلی اور تن آسانی کے شکار۔ ہر ادا میں ریا، ہر چال میں شهرت و مقبولیت کی تمنا۔ خالق کائنات کی رضا سے بے فکری سکر عوام کی رضا مندی کے لئے ہر وقت کوشش۔ اللہ کے خوف سے دل خالی لیکن عوام کے خوف سے ہراساں۔ یہ ہے ان کی زندگی۔

ان راہوں سے مختلف سچے انبیائے کرام کی زندگیوں کو دیکھئے۔ فلسفیوں کی طرح کوئی نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی تردید نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرتا ہے اس کا یقین اس کے قول سے اور اس کا قول اس کے عمل سے کبھی مختلف نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا کے سر پر آرا چلا دیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا لیکن مصلحت یعنی انہیں اپنے یقین کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکلوانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ حضرت یوسف کو اقتدار و دولت دی گئی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا ہوئی لیکن ان کے اقوال و اعمال ان کے یقین و ایمان سے مختلف کبھی نہیں ہو سکے۔ ان پر یہ حالت کبھی طاری نہیں ہوئی کہ دل و دماغ کے ماہین جنگ شروع ہو جاتی۔ وہ جو کچھ کرتے رہے اس یقین و ایمان کے ماتحت کر رہے کہ خالق کائنات کی رضا اسی عمل میں ہے۔

انبیائے کرام کی زندگیوں میں ایک یہ خصوصیت بھی نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کو جو کچھ یقین و عمل کے لئے دیتے ہیں خود اس پر سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ وہ اگر توحید پر یقین رکھنے کو کہتے ہیں تو خود سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، وہ اگر عبادت بجا لانے کو کہتے ہیں تو خود سب سے زیادہ عبادت بجا لاتے ہیں۔ وہ اگر دوسروں کا غم کھانے کی تلقین کرتے ہیں تو خود غیروں کے دکھ درد میں سب سے زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کسی مدعی میں آپ کو نہیں ملے گی۔

انبیائے کرام کی راہ زندگی اس لئے بھی بڑی حسین ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی حیات کو ایک مسلسل غیر منقطع حقیقت ثابتہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور خود اس پر بد Reggie کمال یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو دنیاوی زندگی سے ملحق ہے۔ دنیاوی زندگی کے تمام ارادی عقاید و اعمال کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس عقیدہ کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی حیات دنیاوی میں افادیت کا پہلو غالب رہتا ہے۔ اعمال کے استفادی

تصور سے جو خود غرضیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں اس سے جو خرابیاں رونما ہوتی ہیں ان سب سے انبیاء کرام کی زندگیاں پاک اور سبرا ہوتی ہیں ۔

انبیائے کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے ۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو مخت سے اپنے لئے کمائے اور اس کمائی میں سے سائل و محروم کو بھی دے ۔ وہ شخص اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے جو دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرے ۔

اس طرح آپ جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ پر یہ حقیقت روشن ہوتی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، اور سلسلہ انبیاء کرام کی آخری اور تکمیلی شخصیت نے انبیائے کرام کی راہ زندگی کو احسن قرار دے کر کیسی عظیم الشان صداقت کی طرف توجہ دلانی ہے ۔

(۱۰) و اشرف الموت قتل الشهداء اور سب سے زیادہ با عزت موت شہیدوں کی موت ہے ۔

موت سے کس کو رستگاری ہے ۔ آخر ہم آپ سب ہی کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی ۔ چاہے ہسپتال کے بستر پر آئے یا میدان جہاد میں، موت تو بہر حال آئے گی ۔ اب اگر زندگی کا مقصد خالق کائنات کی رضا کا حصول ہے تو زندگی اشرف و باعزت ہے، اور اگر موت کے وقت مرنے کا مقصد بھی یہی ہو تو اس موت کے کیا کہنے ہیں ۔ ایک شہید اپنی سب سے بڑی متاع یعنی حیات کو اپنے خالق کے حضور میں پیش کر کے جب یہ کہتا ہے کہ ۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

تو یقیناً اس موت کو اشرف الموت ہی کہا جا سکتا ہے ۔ مرنے کو تو سب ہی مرتے ہیں لیکن شہید ایک مقصد کے لئے مرتا ہے اور دوسرے بے مقصد اور مجبوراً موت کا مزہ چکھتے ہیں ۔ قرآن مجید میں شہداء کے جو مراتب

عالیہ بتائے گئے ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ ہر موت سے زیادہ بہتر موت شہید کی موت ہوتی ہے۔

(۱۱) واعم الاعمی الضلال بعد سیدھی راہ پالینے کے بعد گمراہی سب سے بڑی بے بصری ہے۔ الہدی

اس سے بڑا انداز اور محروم بصر کون ہو سکتا ہے جسے سیدھی راہ دکھا دی جائے، وہ دیکھ بھی لے، لیکن اس کے بعد وہ اس راہ کو اختیار کرنے کی بجائے دوسری طرف چل پڑے اور راہ ڈھونڈھتا پھرے۔

بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھلا ایسا کون آدمی ہو گا جو سیدھی راہ دیکھ لینے اور پالینے کے بعد بھی دوسری طرف چل کر گمراہ ہو جائے۔ لیکن نہیں، ایسے آدمی بہت ہوتے ہیں جن کو سیدھی راہ دکھا دی جاتی ہے اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے مگر اس کے باوجود وہ غلط راستوں پر لگ جاتے ہیں۔ کبھی برادری کے رسم و رواج کے آگے سپر انداز ہونے کی وجہ سے اور کبھی اپنی بیوی اور بچوں کے اصرار کی وجہ سے۔ غور سے گرد و پیش کو دیکھئے، عزیزوں اور ہمسایوں کی حالت پر غور کیجئے۔ ایسے اندهوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے جو برادری میں ناموری کے لئے سودی قرض لیتے ہیں۔ اور بیوی کی ناز برداری کے لئے رشوئیں۔ حالانکہ انہیں سیدھی راہ دکھا دی گئی ہے اور وہ اس سے پوری طرح واقف بھی ہیں۔ ربا اور ناموری کی تمنا میں اسراف و تبذیر کی برائی سے کون واقف نہیں لیکن ان آنکھوں والے اندهوں کی کتنی بہتات ہے۔ یہی حال ان اندهوں کا ہے جو اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے کے باوجود امید و بیم کا رشتہ مخلوقات سے جوڑتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اندهوں میں انہے جن کو راہ دکھا دی گئی ہے اور انہوں نے راہ دیکھ بھی لی نہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اور سب سے بڑے انہے تو وہ ہیں جو اسلام کی هدایت کو پا کر بھٹک جاتے ہیں۔

(۱۲) و خیر الاعمال ما نفع  
سب سے اچھا عمل وہ ہے جو نفع  
پہنچائے -

کتنی سچی بات ہے، جس کام سے کوئی نفع ہی حاصل نہ ہو، اس میں وقت صرف کرنا کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ ہمارے لئے سب سے قیمتی اور اہم چیز کیا ہے۔ ہر شخص اس کا ایک ہی جواب دے گا، اور وہ یہ کہ سب سے قیمتی اور اہم ترین دولت ہماری زندگی ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں۔ پیدا شد سے موت تک کے وقت کو۔ اس طرح ہمارا وقت چاہے ایک منٹ ہی کیوں نہ ہو، ہماری قیمتی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہماری پوری زندگی ان ہی منٹوں، گھنٹوں، دنوں، سوہنیوں اور سالوں کا مجموعہ ہے۔ اب خود سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے اپنا ایک منٹ بھی ایسے کام میں ضایع کر دیا جس کا نفع نہیں تو آپ نے اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی زندگی کو برباد کیا۔ ذرا ہم اپنی حماقتوں اور نادانیوں کو دیکھیں کہ ایک گھنٹہ بے کاری میں گذارا، دوسرا گھنٹہ فضول باتوں بلکہ غیبت اور عیب چینی میں بسر کیا، ڈھائی گھنٹے منیما دیکھنے میں خرچ ہونے اور دو گھنٹے کہانیاں سننے میں۔ زندگی یوں برباد کی کہ بے نفع کام کرتے رہے، ایسے کام کہ جن سے کوئی فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اس پر مزید مصیبت یہ کہ زندگی خدا کی امانت ہے اس کو بے نفع کاسوں میں برباد کرنے کا قیامت میں حساب بھی دینا پڑے گا۔

(۱۳) و خیر الهدی ما اتبع  
اور سب سے اچھا طریقہ وہ ہے  
جس کی ابتداء کی جائے -

بقیناً وہی طریقہ اچھا طریقہ زندگی ہے جس کی ابتداء کی جائے ورنہ طریقہ زندگی تو وہ بھی ہوتا ہے جس کی ابتداء نہیں کی جاسکتی، مثلاً ایک شخص نے توکل اور قناعت کو غلط معنی پہنا کر کاہلی اور بے کاری کی زندگی شروع کر دی۔ اپنے آپ کو قانع اور مستوکل کا لقب دے کر بیٹھ رہا۔ اب اس کا گزر بسر

محض دوسروں کی امداد پر ہو گیا۔ اگر کوئی اس کے طریقہ زندگی کی اتباع کرنا چاہے بھی تو کیسے کرے۔ سب لوگ ایسے ہی کاہل اور ناکارہ ہو کر یہاں جائیں تو ان کا گزر بسر کیسے ہو اور خود اس مرشد کی امداد کرنے والے کہاں سے آئیں۔ ایک آدمی دن رات گیان دھیان میں لگا رہے تو اس کی اتباع کرنے والے کہاں سے لائے جائیں اور کس طرح زندگی کے دوسرے فرایض کی انجام دھی ہو سکے۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھئے جو دن رات دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے نہ اسے اپنے گھر والوں کی خدمت کے لئے وقت ملتا ہے اور نہ ہمسایوں اور محلہ والوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لئے۔ اب اگر لوگ اس کی سی زندگی اختیار کر لیں تو معاشرے میں کیسی شدید خود غرضی پیدا ہو جائے اور کتنی مشکلات میں دنیا والے مبتلا ہو جائیں گے۔

اسی لئے ہادی برق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہدایت فرمائی کہ طریقہ حیات وہی بہتر ہے جس کی لوگ اتباع کرسکیں اور کریں۔

(۱۲) وشر العی عی القلب      اور بہت ہی بڑی نایبیاً نے  
دلہ کی نایبیاً۔

جو لوگ آنکھوں سے معدوز اور نایبنا ہوتے ہیں انھیں خود تو بے بصری سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں مگر دوسروں کو ان سے بہت زیادہ تکلیف لھیں پہنچتی، زیادہ سے زیادہ یہی تکلیف پہنچتی ہے کہ کبھی ان سے ٹھوکر لگ جائے یا اس کی لاثمی سے کسی کو کبھی تھوڑی سی چوٹ آ جائے۔ لیکن جن کے قلوب سے بصیرت کم ہو جاتی ہے۔ اور خیر و شر میں تمیز کی نظر باقی نہیں رہتی، حق و باطل کے مابین امتیاز ان کو نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ ساری دنیا کے لئے مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ سب سے برا اندھا ہے۔ کہ ایسا آدمی کہیں صاحب اقتدار ہو تو سب سے زیادہ خطرناک اور عذاب کا ہوتا ہے ورنہ کم از کم اپنے گھر، محلہ، اور معاشرے کے لئے تو بہرحال

وہ ایک شر ہی ہوتا ہے جس سے بچتے رہنے کی ہر شخص کو فکر لگی رہتی ہے۔

ایسے اندھے جن کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ کان ملتے ہیں لیکن دل برائی اور بھلائی کے مابین تمثیز کرنے سے قاصر ہے، بہت سے ملتے ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر ملتے ہیں تجارتی گدیوں پر ملتے ہیں، سرکاری دفاتر کی کرسیوں پر ملتے ہیں۔ دوکانوں میں ملتے ہیں کارپکروں میں ملتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ معلموں اور استادوں میں ملتے ہیں، کہاں نہیں ملتے؟ ایک استاد ہے کہ شاگردوں کے پیسوں سے ان ہی کے ساتھ سنیما دیکھنے جاتا ہے۔ ایک عہدیدار ہے کہ رشوت لینے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے۔ ایک ہمسایہ ہے کہ گھر کی ہر گندہ چیز سڑک پر پھینک دیا کرتا ہے اور گندگی پھیلاتا رہتا ہے یہ سب آنکھوں سے بینا اور دل سے نابینا لوگ ہیں۔ ان کے دل یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی ان حرکتوں سے کیا برعے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ کس طرح دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، ان حرکتوں سے دوسروں کو کس قدر دکھ اٹھانا پڑتا ہے یہ انھیں نظر ہی نہیں آتا۔ ایسوں کا اندھا بن خود ان کے لئے بھی شر ہے اور دوسروں کے لئے بھی شر۔

(۱۵) والید العليا خير من اليد اور اوپر والا ہاتھ (دینے والا)  
نجپے والے ہاتھ (لینے والا) سے  
بہتر ہے۔

یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ اس کی تشریع ضروری نہیں۔ مانگنے والوں کو کس نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کی اپنی نفسی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو تو وہی جانتے ہیں لیکن دیکھنے والوں کی نظر میں کون سا ہاتھ بہتر دکھائی دیتا ہے اس کا روزانہ مشاہدہ ہم سب کو ہوتا ہے۔

مانگنے والے عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جو کسی وقت ضرورت سے مجبور ہو کر کچھ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے گداگری کو بطور

پیشہ اختیار کیا ہے۔ پہلی قسم بھی آنکھوں میں ذلیل دکھائی دیتی ہے، اس کے لئے یہ بہتر ہوتا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے بغیر کسی نہ کسی طرح اپنی ضرورت پوری کر لیتا اور مانگنے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ رہی دوسری قسم یعنی پیشہ ور گداؤر، یہ ذلیل ہی نہیں بلکہ لعنتی بھی ہوتے ہیں۔ انھیں مرنے کے بعد شدید عذابوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ لوگ کسی آبادی کے لئے نہایت ہی تکلیف دہ اور بدنما داغ ہوتے ہیں۔ ان کو خیرات دینا درحقیقت ان کی همت افزائی کرنا ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ ان کو خیرات دینے سے احتراز کرے۔

ان پیشہ ور فقیروں میں ایک گروہ ہوتا ہے جو رنگین کپڑے پہن کر اور لوحے کے کٹرے اور زنجیریں ڈال کر گھومتا پھرتا ہے۔ یہ لوگ اکثر جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، لوگوں سے بہ جبر خیرات وصول کرتے ہیں۔ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ڈرا دھمکا کر پیسے مانگتے ہیں اور حیرت تو یہ ہے کہ بعض لوگ ان سے نفرت کرنے کی بجائے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ جمعہ اور عیدین کے موقع پر مسجد اور عید گہ کے باہر پیشہ ور گداؤروں کا ایک جم غیر جمع ہو جاتا ہے۔ نہ یہ لوگ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور نہ خطبہ ستنے کی ان کو پرواہ ہوتی ہے۔ ادھر خطبہ ہورہا ہے اور ادھر یہ لوگ برابر چیخ چیخ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسے کاہل، بدتمیز اور بے دین لوگوں کو خیرات اور فطرہ کی رقم دینا کسی طرح پسندیدہ عمل نہیں ہو سکتا۔

(۱۶) و ما قل و کفى خیر معا جو (مال) کم ہو اور ضرورت کے  
کثرو الھی۔  
لئے کافی ہو جائے وہ اس مال سے  
بہتر ہے جو بہت ہو اور غافل  
کر دے۔

مال و دولت کیا چیز ہوتی ہے، علم معاشیات کی کتابوں میں دولت کی

بہت سی تعریفیں ملتی ہیں لیکن ان میں ذہانت کا کمال اور الفاظ کی بازیگری بھی ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات یہی ہے کہ جو چیز انسان کی کسی حاجت کو پوری کر دے وہ دولت ہے۔ پیاس کی حاجت کو پانی پوری کر دیتا ہے اور بھوکے کی حاجت کو روٹی، اس لئے وہ دولت ہیں۔ اور اسی طرح دوسری تمام اقسام دولت کو قیاس کر لیجئے۔

انسان کی حاجتیں اور ضرورتیں بہت سی ہیں اور بڑی متنوع اقسام کی ہیں۔ لیکن ہر ضرورت پکسان اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ بعض بہت ہی اہم ہیں۔ بعض ان سے کم اور بعض بہت ہی کم اہمیت رکھتی ہیں۔ اور ان کے بعد بعض ایسی بھی حاجتیں میں ہیں جو حقیقتہ حاجتیں نہیں بلکہ ہمارے جذبہ نقائی، حرص اور ہماری حماقت و نارسائی فکر نے انہیں ضرورت و حاجت کا مرتبہ عطا کر دیا ہے اور ہم صرف حرص بلکہ اکثر دوسروں کی ریس کی وجہ سے ان غیر حقیقی ضروریات کی تکمیل کے لئے سرگردان و پریشان ہیں۔

حرص قانع نیست ییدل ورنہ اسباب معاش  
انچہ ما در کار دارم اکثرش درکار نیست

اس کی مثالیں پیش کر کے بات کو طولانی بنا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص خود اپنی ضروریات کا جائزہ لے کر اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس جائزے کے بعد ہم جس نتیجہ تک پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ضروریات جس سے ہم ضروریات کہتے ہیں پانچ اقسام کی ہیں۔

(۱) ضروریات زندگی

(۲) ضروریات کارکردگی

(۳) ضروریات توانائی

(۴) اسراف

(۵) تبذیر

(۱) ضروریات زندگی مثلاً کھانا، پانی، کپڑا، مکان اور دوائیں وغیرہ یعنی وہ چیزیں جن کے بغیر ہم زندگی بسر نہیں کرسکتے۔ یا کم از کم مطمئن نہیں رہ سکتے، یہ ضروریات اصلی اور اہم ترین ضرورتیں ہیں۔

(۲) ضروریات کار کردگی، وہ تمام چیزیں جو مشغول بہ کار رہنے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے ضروری ہیں مثلاً کاریگر کے اوزار عالم کی کتابیں، کاتب کا قلم، کاغذ اور روشنائی، مدارس کی عمارتیں وغیرہ۔

(۳) چونکہ ہم اپنی تمام حرکات میں اپنی توانائی کا ایک حصہ صرف کرتے ہیں، اس لئے ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی صرف شدہ توانائی کے بدلہ میں توانائی حاصل کریں۔ اس کو ضرورت توانائی، ضرورت عیش اور ضرورت تفریح کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔

ان تینوں اقسام کے علاوہ جو درجہ بدرجہ اپنی اپنی جگہ پر واقعی ضرورتیں ہیں، ہم دو قسم کی مزید ضرورتیں بھی اپنی زندگی میں پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ضرورتیں نہیں ہوتیں ہیں بلکہ ہم اپنی نادانی سے انہیں ضرورتوں کا درجہ دے لیتے ہیں، ان میں سے ایک ہے اسراف اور دوسری تبذیر۔

(۴) اسراف کے معنی ہیں حقیقی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اگرچہ محل صرف حقیقی ہو مگر اس میں ہم حصول مقصود سے زیادہ صرف دولت کریں تو اسے اسراف کہا جائے گا۔ مثلاً غسل کرنا یا وضعہ کرنا ہماری ایک حقیقی ضرورت ہے لیکن ایک شخص اگر غسل کے لئے پانی کی دش بالٹیاں بھائے یا وضعہ کرتے ہوئے ہاتھ اور منہ کو سات سات مرتبہ دھوئے تو اس نے پانی کا اسراف کیا۔ ایک بار ایک صحافی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ:

— کیا وضعہ میں اسراف ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ!

— آپ نے فرمایا، ہاں! اگرچہ تم بہتی ہوئی ایک ندی کے کنارے ہی پر کیوں نہ ہو۔

سائل کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر مصرف خیر ہو اور حقیقی ضرورت میں کوئی چیز صرف کی جائے، پھر یہ کہ رسد بھی کافی ہو تو زیادہ خرچ کر دینے کو کیوں معیوب قرار دیا جائے، اور آپ ص کے جواب میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ طلب سے زیادہ صرف اسراف ہے چاہے رسد کتنی ہی زیادہ ہو۔ طلب کو رسد کی بہتات کی وجہ سے بڑھا دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ مصرف خیر ہے اور حقیقی بھی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ رسد بہت ہی زیادہ ہے لیکن اگر طلب کو رسد کی بہتات کی وجہ سے بڑھا دیا جائے تو اس کو اسراف ہی کہا جائے گا اور اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

اگر ہم اپنی طلب کو رسد کی فراوانی کے ساتھ ساتھ بڑھا کر اسراف کا گناہ نہ کریں تو ہمارے معاشرے کے سیکڑوں ہی امراض کا علاج ہو جائے۔

(۵) پانچوں اور سب سے زیادہ غیر حقیقی اور نقصان دہ ضرورت جو ہم نے پیدا کر لی ہے وہ تبذیر ہے۔ تبذیر کا لفظ ان تمام اعمال پر حاوی ہے جن سے مقصود کسی حقیقی ضرورت کی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ ریا، طلب شہرت ناموری کی تمنا، دوسروں کی ریس، محض برادری والوں کی خوشنودی اور اسی قسم کے ذلیل مقاصد میانے ہوتے ہیں۔ اس میں مراسم کی پابندی کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔

اس پانچوں قسم کے اخراجات اور صرف دولت کے اس بے جا موقع سے لوگ بہت زیادہ تباہ حال رہتے ہیں اور معاشرے کو اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ انفرادی کردار و اعمال کو بھی تبذیر سے برسے اور ناپاک رخ کی طرف مڑ جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ کوئی خوشی اور غم کے مراسم ادا کرنے کو سودی قرضے لیتا ہے، کوئی جہیز کا سامان مہیا کرنے کے لئے رشوت سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ پھر دوسرے اس کی ریس کرتے ہیں اور گناہ کا یہ چکر سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لوگوں میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں اتنی ہمت باقی نہیں رہتی کہ وہ گناہ کے اس چکر سے نکل

سکیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تبذیر کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ جس طرح شیطان اک ذرا سی بے ضرر حرکت کر کے قتل و خون تک فساد برپا کرا دیتا ہے، بالکل اسی طرح تبذیر کے گناہ کا مرتکب ایک مبذراً ایک بے ضرر سی حرکت کر کے سارے معاشرے میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی لڑکی کو بہت قیمتی اور بہت سا جہیز دیا۔ لیکن اس نے اس کی اہتمام کے ساتھ نمائش بھی کی۔ بہ ظاہر اس نے کسی کو نہ دکھ پہنچایا اور نہ کسی کو ستایا بلکہ دعوت دیکر لوگوں کو بلا دیا اور اچھی خاطر مدارات بھی کی۔ لیکن اس نے ساری آبادی میں ریشن، رسم اور نمود و نمائش کی ایسی آگ لگا دی جس سے بہت سے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ برادری والوں میں سے جو اتنا جہیز مہیا نہیں کر سکیں گے وہ رشک و حسد کی آگ میں جلیں گے اور جو اس سے بہتر جہیز مہیا کر سکیں گے وہ اس شخص کو اور دوسرے لوگوں کو ذلیل اور کمتر شمار کریں گے۔ اس طرح برادری میں احساس کمتری اور فخر و غزور کی دوہری آگ بھڑکے گی۔

اب سطور بالا کو نظر میں رکھ کر خطبہ تبوک کے اس مختصر سے قبرے پر غور کیجیئے، اس میں ہماری زندگی کے لئے بہترین رہنمائی موجود ہے جس کے مطابق عمل کر کے ہم نہ صرف اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں بلکہ سارے معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اس فقرہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ:-

جس مال و دولت کی مقدار اگرچہ کم ہو مگر ضرورت زندگی کے لئے کافی ہو وہ ایسے مال سے بہتر ہے جو اگرچہ بہت زیادہ ہو مگر ہمیں غفلت میں ڈال دے۔ اس طرح مال و دولت کی چار قسمیں ہوئیں۔

- (۱) جو مقدار میں کم ہو اور حقیقی ضروریات کی تکمیل کے لئے کافی ہو،
- (۲) جو مقدار میں کم ہو اور حقیقی ضروریات کی تکمیل کے لئے ناکافی ہو،

(۳) جو مقدار میں کثیر ہو اور ہمیں غفلت میں ڈال دے۔

(۴) جو مقدار میں کثیر ہو اور ہمیں غفلت میں نہ ڈال سکے،

ان میں سے قسم اول قسم سوم سے بہتر ہے۔ اور یہ چیز بھی پیغمبرانہ حکمت نے واضح کر دی کہ مال و دولت کی کوئی مقدار چاہے قلیل ہو یا کثیر نہ خیر ہوتی ہے اور نہ شر، خیر و شر ہونے کا تعلق دولت کی دوسری صفات سے ہے جسے کافی ہونے اور غفلت میں ڈال دینے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہر دولت قلیل خیر نہیں ہوتی بلکہ وہ خیر ہوتی ہے جو کسی کی حقیقی ضروریات کی تکمیل کے لئے کافی ہو، اور ہر دولت کثیر، شر بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دولت کثیر شر ہو جاتی ہے جو صاحب دولت کو اپنی محبت میں مبتلاع کر کے فرایض انسانی سے غافل بنا دے۔ اگر کسی صاحب دولت کثیر، میں خالق کائنات، اس کے احکام اور اس کی رضا جوئی کی طرف سے غفلت نہیں طاری ہوتی تو اس کی دولت نعمت پروردگار ہے اور خیر کامل ہے جس کے ذریعہ سے وہ دنیا اور آخرت کی خوشی حاصل کرسکتا ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابۃ کرام میں سے حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ بھی صاحب دولت کثیر تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بڑی دولت تھی لیکن ان بزرگوں پر غفلت کبھی طاری نہ ہوسکی، اور نہ دولت کی محبت ان کے دل میں جگہ پاسکی۔ اس لئے ان کی دولت نعمت پروردگار اور خیر کامل تھی۔ باوجود کثرت کے اس سے بہتر کوئی مال نہیں ہوسکتا۔

اسی طرح کم دولت جو اصلی و حقیقی ضروریات کے لئے بھی کافی نہ ہو، خیر نہیں ہوتی بلکہ اکثر شر ثابت ہوتی ہے۔ آدمی بھکاری اور ذلیل ہو جاتا ہے جس کی طرف اس سے پہلے والی فقرہ میں اشارہ کیا جا چکا ہے شاید اسی مقصد کے ماتحت خطبہ میں ان فقروں کی ترتیب آپ نے قائم فرمائی تھی۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پر فقر اور بے زری کو کفر تک پہنچا دینے والا ایک خطروہ بھی قرار دیا ہے۔

دولت کی فراوانی کس طرح غفلت بلکہ بے راہ روی پیدا کر دیتی ہے اس کی مثالیں ہر زمانہ اور ہر ملک میں بے شمار مل جاتی ہیں۔ اخباروں میں اطلاعات شایع ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں کڑورپتی نے محفل رقص و سرود منعقد کرنے کے لئے دو لاکھ روپے دئے اور فلاں لکھ پتی نے مقابلہ حسن کے لئے لاکھوں روپے کا عطیہ دیا۔

اس طرح اس کی بھی اطلاع ملتی ہے کہ فلاں دولتمند نے یتیم خالہ بنوایا۔ تعلیم کے لئے غریب طلبہ کو وظیفے دیے۔ دواخانہ اور ہسپتال قائم کیے ہے ضروری نہیں کہ اس نے یہ خیرات ناموری ہی کے لیے دی ہو بلکہ اکثر صورتوں میں ایسی خیرات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے بھی ہوتی ہے۔

اس طرح کسی دولت کے خیر و شر ہونے کا معیار اس کی قلت و کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا کافی ہونا اور غفلت پیدا کرنا ہے۔

اسلام میں حلال ذریعہ سے بقدر کفاف روزی کمانے کی کوشش کو عبادت قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماتھیوں کا جو طریقہ زندگی سورہ الفتح کی آیت (۲۹) میں بتایا گیا ہے اس میں رکوع اور سجده کے بعد ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اور اس کی رضا مندی کی تلاش کرتے ہیں اسی طرح اور متعدد آیتوں میں بھی حلال ذرائع سے رزق کی تلاش کا حکم موجود ہے۔ کافر کی تلاش دولت اور موسین کی تلاش دولت میں یہ بنیادی فرق ہے کہ کافر تلاش دولت میں مقصود خود دولت ہی کو سمجھتا ہے اور موسین تلاش دولت کی مہم سے مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعییل اور اس کی رضا کے حصول کو قرار دیتا ہے۔

دولت کے خیر و شر ہونے کی یہ ساری بحث صرف اس دولت کے متعلق ہے جو حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، ورنہ حرام ذرائع، مثلاً چوری، ڈاکہ،

قمار بازی، سود خواری، خمر فروشی، ذخیرہ اندوزی اور نفع خوری وغیرہ سے حاصل ہونے والی دولت میں خیر کا کوئی پھلو تلاش کرنا عبث ہے۔ فطرت انسانی اور عقل سلیم اس کے شر ہونے پر متفق ہے۔ یہ شر ہے اور ہر جگہ اور ہر زمانہ میں شر ہی رہے گی چاہے ہماری کم نظری کی وجہ سے کسی وقت کار آمد ہی کیوں نہ نظر آئے۔ ناجایز ذرائع کسب کے متعلق نظر کو دھوکہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ ہم اس کے دور رس اثرات اور نتائج کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ورنہ ذرا سی توجہ سے اس کے نقصانات واضح ہو جاتے ہیں۔

ذرائع حصول دولت کے اعتبار سے ہمارے سامنے اموال کی تین قسمیں آتی ہیں۔

قسم اول :- حلال یعنی حلال ذریع سے حاصل کیا ہوا مال۔ ایسے مال کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ قیامت میں اور موالات کے علاوہ اس سوال کا جواب ہم سب کو دینا ہی پڑے گا کہ جو مال ہم نے حلال ذریعہ سے حاصل کیا تھا، اس کو خرچ کیا یا نہیں کیا، اور خرچ کیا تو کن مصارف میں خرچ کیا،

قسم دوم :- مشتبہ یعنی وہ مال جس کے حلال ہونے میں شک و شبہ ہو، اسے مال مشتبہ کہا جاتا ہے۔ ایسے مال سے احتراز ضروری ہے کیوں کہ قیامت میں اس کا مواخذہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عتاب سے بندہ کو دوچار ہونا ہی پڑے گا۔

قسم سوم :- حرام یعنی وہ مال جو حرام اور ناجایز ذرائع سے حاصل کیا ہو، اس مال کے مالک پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اور ایسا بندہ عذاب میں ضرور ڈالا جائے گا۔

قیامت کے دن کا حساب ہی کیا۔ کم مصیبت ہے کہ عتاب و عذاب کی کیفیت کا کوئی اندازہ کیا جا سکے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ عتاب کی کیا صورت ہوگی اور عذاب کتنے دردناک ہونگے اس جگہ ایک بندہ موسیٰ کو یہ خیال آسکتا ہے کہ موت کے وقت توبہ کر لیں گے۔ اس لئے خطبہ تبوک میں اس فقرہ کے بعد ہی آپ نے فرمایا۔

(۱۷) شر المعدّة حين يحضر انتهاي بري عذر خواهی (توبہ)  
اس وقت کی توبہ ہے جب موت  
الموت۔  
سامنے آجائے۔

یہ فقرہ قرآن مجید کی آیت ۱۷-۱۸ سورہ النساء کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء جس توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ بجهالتہ ثم یتوبون من قریب فاولئک ہے وہ صرف ان لوگوں کی توبہ ہے یتوب اللہ علیہم و کان اللہ علیماً حکیماً جو نادانی سے برا کام کر ریشتھے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔

ولیست التوبۃ للذین یعملون السیمات حتی توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو اذا حضر احدہم الموت قال إنى تبت برے کام کرنے رہتے ہیں حتی کہ الان و لا الذين یموتون وهم کفار، جب موت ان میں سے کسی کے سامنے اولئک اعتدنا لهم عذاباً الیما۔ آجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کے لئے (توبہ) ہے جو کفر ہی کی حالت

میں مرجانے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ  
جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب  
تیار کر رکھا ہے۔

تویہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ ایک شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے خالق کے حضور عاجزی کے ساتھ اس کا اقرار کیا کہ وہ پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ موت کو سامنے پا کر تویہ کیا تویہ ہوئی، اس وقت تو مرنے والے کو اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس یقین کے بعد اس اقرار کے کیا معنی باقی رہ جاتے ہیں کہ اب آیندہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اسے تو یہ یقین حاصل ہو چکا کہ اب وہ نہ غلط عمل کر سکے گا اور نہ صحیح۔ کسی قسم کا عمل کر ہی نہیں سکتا تو آیندہ کے کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا اقرار بخض دل پہلانے کی باتیں ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں۔ رہا یہ خیال کہ خداوند تعالیٰ بڑا رحیم و غفور ہے۔ شاید موت کے وقت کی تویہ بھی قبول فرمائے بلکہ یہ امید کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، امید کی ایک کرن ضرور ہے مگر کسی کا موت کے وقت تویہ کرنا تویہ کی یقیناً سب سے بڑی قسم ہے۔

آدمی کو چاہئے کہ جس وقت گناہ کا احساس ہو جائے فوراً تویہ کر لے اور سچے دل سے اپنے خالق کے حضور میں اس کا عہد کرے کہ وہ آیندہ گناہ نہیں کرے گا۔ موت کے وقت تک انتظار کرنا اور گناہ کی زندگی بسر کرنے رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی غفاری کے ساتھ استہزا اور مذاق کے برابر ہے۔ پھر یہ کسی معلوم ہے کہ موت کے وقت تویہ کی فرصت میسر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ هزاروں آدمی طبیعتی حوادث کے شکار ہو جاتے ہیں۔ هزاروں کو اچانک موت آجائی ہے۔ هزاروں بمبائی میں مرجانے ہیں، اور هزاروں ہی بیہوشی اور سکته کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہیں کہاں موقع ملتا ہے کہ تویہ کر کے دنیا سے جائیں۔

توبہ کرنے کے اخروی فواید تو ہمیں مرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں لیکن توبہ کا دنیوی فائدہ یہ ہے کہ ہمیں توبہ کے بعد اپنی زندگی کو زیادہ بہتر سانچہ میں ڈھالنے اور عقاید و اعمال کو سنوارنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ یہ فائدہ سوت کے وقت کی توبہ سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو زندگی کے اختتام کے وقت کی جاتی ہے۔ اب آیندہ زندگی ہے کہاں جسے ہم بہتر سانچہ میں ڈھالیں اور سنوار کر اچھی زندگی بنائیں۔

(۱۸) وشر الندامة يوم القيمة اور سب سے بڑی ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔

جب کوئی شخص کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے تو اسے دنیا میں ندامت ہوتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روپوش ہو جاتا ہے۔ اپنا وطن چھوڑ کر کہیں دور دراز مقام پر اقامت پذیر ہو جاتا ہے جہاں کے لوگ اس کے برعکام سے واقف نہ ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ندامت کی شدت میں وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ ایسے واقعات ہر روز ہونے رہتے ہیں اور ہر ملک و ہر معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں۔

اب ذرا قیاست کے میدان کا تصور کیجئے جہاں سے روپوشی بھی ممکن نہیں اور جس میدان میں خودکشی بھی نہیں کی جاسکتی۔ جہاں ہماری ذلت و رسائی کے دیکھنے کو ساری اولاد آدم موجود ہوگی جہاں ہمارے باپ دادا بھی ہوں گے۔ ہم کو اچھا سمجھنے والے دوست اور احباب بھی ہوں گے، ہمیں اپنا بزرگ اور بڑا ماننے والے ہمارے بچے، اور پوتے پوتیاں بھی ہوں گی۔ ہمیں نیکوکار اور ولی اللہ جاننے والے شاگرد اور عقیدت مند بھی ہوں گے، اس میدان میں ندامت سے ہم عرق عرق ہوں گے۔ اور اپنا گناہگار چہرہ کسی سے چھپا بھی نہ سکیں گے۔

الله کی پناہ! کیسی ندامت ہوگی اور کتنی بڑی ندامت ہوگی۔

قبر کی مشی میں یا تو عیب سارے چھپ گئے  
حشر کی محفل میں رسوائی سے کیونکر ہونجات

(۱۹) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ أُوْرَكَچَهُ لَوْكُ وَهُوَ هَيْنَ جُو جَمَعَهُ  
مَيْنَ نَهِيْنَ آتَيْتَ مَكْرُ بُرُّ دِيرَسَ -

(۲۰) وَمِنَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجَرَا - اُورَكَچَهُ وَهُوَ لَوْكُ هَيْنَ جُو اللَّهَ كَوْ  
نَهِيْنَ يَادَ كَرْتَ مَكْرُ كَبَهِيْ كَبَهِيْ

ان دو فقروں کو ایک ساتھ ملا کر اس لئے بیان کیا گیا کہ ان دونوں  
کا تعلق آدمی کی ایک ہی نفسی کیفیت سے ہے۔ آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ  
جس مقصد کو وہ جس قدر عزیز رکھتا ہے اسی قدر اس کی یاد اس کے دل میں  
قائم رہتی ہے۔ اور اس کے حصول کے لئے وہ اسی قدر اہتمام کے ساتھ عمل کرتا  
ہے۔ اس سلسلہ میں سستی و بے پرواہی کا اس سے ظہور نہیں ہوتا۔ مثال کے  
طور پر ایک امیڈوار کو دیکھئے جب اسے بہ سلسلہ تقرر ملاقات کے لئے بلا یا  
جاتا ہے تو حتی الامکان وہ مقررہ وقت سے دو چار منٹ پہلے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔  
لیکن جب اس کا تقرر کسی عہدہ پر ہو جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد ہی اس  
کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ دیر سے دفتر میں حاضر ہونا تقریباً معمول بن جاتا ہے۔  
اسی طرح وہ آدمی جسے کسی مقدمہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے حتی الامکان کبھی  
دیر سے نہیں آتا۔ استھان ہال میں طلبہ کی حاضری اور مسافروں کی ریلوے اسٹیشنوں  
پر موجودگی پر غور کیجئے تو یہ کلیہ آسانی سے سمجھہ میں آجاتا ہے کہ دیر  
سے حاضر ہونے والے کا ذہن درحقیقت کام اور مقصد کی طرف سے غافل ہوتا ہے۔  
ورنہ انسان ہر اس موقع پر قبل از وقت حاضری کی کوشش کرتا ہے جہاں پر  
حاضر ہونا اسے اہم نظر آتا ہے یا وہاں پر حاضری سے اس کے قلب و دماغ کو  
مسرت و طمأنیت حاصل ہوتی ہے۔

اب سوچئے کہ جو شخص جمعہ کے لئے ہمیشہ ہی بڑی دیر سے آیا کرے

اس کے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوگی، اور جمعہ کی حاضری اس کو کس قدر جبر اور کتنی خیر اہم نظر آتی ہوگی۔

اسی نفسی کیفیت کو دوسرے فقرہ میں اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ ”کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر کبھی کبھی“، یہاں اللہ کی یاد سے مراد کوئی ذکر جلی یا ذکر خفی نہیں ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ کسی کسی وقت ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف سے عاید کئے ہوئے فرایض یاد تو آتے ہیں مگر وہ ہمیشہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ اس وقت اور اس موقع کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ ورنہ وہ غفلت میں مبتلاع نہ ہو جانے اور صحیح وقت پر بلکہ دوچار منٹ پہلے ہی جمعہ کے لئے حاضر ہو جانے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کی طرف تیزی سے چل پڑو۔

جس وقت کے لئے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے بہ وقت پجالانے کا نام عبادت ہے۔ مثلاً رمضان کے دنوں میں کھانے پینے سے رک جانے اور روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اور عید کے دن کھانے کا حکم ہے اسلئے رمضان میں روزے عبادت ہیں اور عید کے دن کھانا عبادت ہے۔

آدمی کے لئے بھلائی اسی میں ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ جس وقت کے لئے جو حکم ہے اسے بجالائے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لحظہ کی غفلت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ محرومی کا شکار بنا دیتی ہے۔ دنیا میں اسے قدم قدم پر ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے اور آخرت میں شدید مؤاخذہ سے دوچار ہونا پڑے گا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں آدمی مختلف قسم کے گناہ کرتے اور اس کے نتایج اور سزا سے محفوظ بھی رہ جاتے ہیں۔ نہ انہیں فوراً کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ انہیں قانونی وعدالتی سزاوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

ہزاروں چوریاں چھپ جاتی ہیں اور چوروں کو کسی قسم کی سزا سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ ہزاروں قاتل ایسے ہیں جن کے خلاف کوئی مقدمہ بھی قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور ہر قسم کے گناہ، ظلم اور ستم کو دیکھئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے ان کی سزاوں کے لئے حیات مابعد الموت کا زمانہ معین کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ یاد دلایا گیا ہے کہ ”عنقریب تم غیب و شہود کا علم رکھنے والے مالک کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے جہاں تمہارے جرایم چھپائے نہیں جاسکیں گے اور تم کو اپنے بڑے اعمال کے لئے دردناک عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا“۔

چونکہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ صرف دوسرے مرحلہ میں داخل ہو جاتی ہے اس لئے اگر کوئی مجرم اپنی اس زندگی میں سزا نہیں پاتا تو زندگی کے دوسرے مرحلہ میں سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اسے ضرور سزا ملے گی۔ اگر اسے کہیں بھی سزا نہ ملے تو دنیا میں ہمیں جو عمل اور مکافات عمل کا قانون کار فرمایا نظر آتا ہے، سارا ہی بے معنی ہو کر رہ جائے۔ غفلت شاید قانون فطرت میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کے مرتكب کو یہاں دنیاوی زندگی میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ غفلت کا گناہ جس مقام سے اور جس انداز کا ہو گا اس کے دنیاوی اثرات بھی اسی انداز کے ہوں گے۔ مثلاً کوئی شخص دروازے میں داخل ہونے ہوئے غفلت کا گناہ کرے تو فوراً اس کے سر میں چوٹ لگ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی غذا اور لباس میں غفلت کا گناہ کرے تو اپنی صحت کھو یٹھے گا۔ اسی طرح ایک محلہ اور ایک شہر والے صفائی سے غافل ہو جائیں تو محلہ اور شہر میں وبا پھیل جائے گی۔ غفلت جب اتنا سنگین گناہ ہے تو اس کم نصیب کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے جو خالق کائنات ہی کی طرف سے غافل ہو جائے۔ اس کی خوشی کتنے منٹ قائم رہ سکے گی اور مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہو گا۔

(۲۱) وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا إِلْسَانٌ أَوْ بَهْتٌ بُرُّئٌ كَنَاهُونَ مِنْ سَهْ لِكَذَابٍ جَهُوْثٌ بُولَنْتَيْ وَالِّي زِيَانٌ

بُرُّئٌ بُرُّئٌ کناہ اور خطائیں تو اور بھی ہیں لیکن ان کناہوں میں سے ایک بڑا کناہ جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ کس قدر بڑی چیز ہے اس کے بیان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کی برائی اور بڑے نتائج فطرت انسانی کے نزدیک ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اس جگہ خطبہ میں اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ میں دیر سے آنے کی وجہ اگر کسی سے پوچھی جائے تو عام طور سے لوگ جھوٹے بھانے کر دیتے ہیں جو ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اپنے زمانہ میں آپ اس کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو کسی جلسہ میں صدر صاحب یا مقرر صاحب سے دیر میں آنے کا عذر سئئے۔ یا کسی دفتر میں دیر سے آنے والے اہلکار حضرات کا عذر اپنے افسروں کے سامنے دیکھئے۔

(۲۲) وَخَيْرُ الْغَنِيِّ غَنِيٌّ النَّفْسٌ أَوْ بَهْتَرِينَ بِهِ نِيَازِي نَفْسٌ كَيْ بِهِ نِيَازِي

- ہے -

انسان کے احتیاجوں کی کوئی حد و شمار نہیں، وہ مال و دولت کا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ اتنی چیزوں کا محتاج ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی ان احتیاجوں کی تکمیل کے لئے جدوجہد میں صرف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہی کہتا ہے کہ:

هزاروں خواہشیں ایسی کہ هر خواہش پہ دم نکلے

بہت نکلے مرے اریان لیکن پھر بھی کم نکلے  
اور مال و دولت کے لئے تو ہم دن رات پاپڑ بیلتے ہی رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی کسی مرحلہ پر ہم میں غنی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہمیشہ نناوے کے چکر میں گرفتار رہتے ہیں کہ اب صرف ایک اور مل جائے تو سو ہو جائے اور سو کے بعد دوسرے سو کی تلاش میں سرگردان نظر آتے ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں اطمینان اور مسرت سے محروم رہتے ہیں۔ حرص اور لالج زندگی بھر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور مرتبے دم یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانے کی حسرت دل میں لئے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔

اس فقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دولت دنیا کی بڑی سے بڑی مقدار بھی ہم مہیا کر لیں تو ہمیں خوشی کی زندگی اس وقت تک میسر نہیں آسکتی جب تک کہ ہمیں نفس کا غنی حاصل نہ ہو جائے۔ جب انسان کے دل میں بے نیازی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو خوشی کے لمحات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ دولت دنیا کے حاصل کرنے کی سعی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے۔ دولت کماتا ہے مگر اپنے دل کو اس سے اتنا وابستہ نہیں کر دیتا کہ حرص پیدا ہو کر اس کے قلبی سکون اور اطمینان کو غارت کر دے۔ وہ حصول مال کی پوری جدوجہد کو اللہ کے حکم کی تعییل اور اس کے فضل و رضوان کی تلاش قرار دیتا ہے۔ وہ اپنی جدوجہد میں تقویٰ کے حدود کو نہیں تورتا ہے۔ وہ مطمئن رہتا ہے اور خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے۔ جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے وہ ان طریقوں سے حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ طریقے ہیں۔ اور جب اپنے مال کو خرج کرتا ہے تو ان مصارف میں خرج کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل ہے۔

(۲۳) و خیر الزاد التقوی - اور بہترین زاد سفر تقوی ہے۔

ہماری حیات کیا ہے؟ ایک سفر اور مسلسل سفر۔ اس مادی زندگی کی پستی سے حیات لا زوال کی بلندی کی طرف، ہم پیدائش سے موت تک سفر کا ایک حصہ طے کرتے ہیں اور موت کے بعد سے قیامت اور جنت تک دوسرا حصہ۔ ہمارے اس سفر کی منزل مقصد جنت ہے۔ سفر کے ان دونوں حصوں میں ہمیں زاد راہ اور توشہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں یہ موقع

حاصل ہے کہ اپنے سفر کے ہر دو حصوں کے لئے زاد راہ اور کافی توشہ حاصل کرلیں۔ سفر کے دوسرے حصہ میں اس کے حصول کی کوئی صورت معکن نہیں رہے گی۔ بڑی نادانی ہوگی کہ ہم زاد سفر مہیا کرنے سے غافل رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقرہ میں یہ بتایا ہے کہ بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ اسی خطبہ کے دوسرے فقرہ میں تقوی کو سب سے مضبوط کڑی سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب یہ تھا اگر کسی نے تقوی کی مضبوط کڑی کو تھام لیا تو اس کے پہسل کر گرانے کا خطرہ باقی نہیں رہا۔ اب اس فقرہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تقوی کی حدود میں رہ کر مال حاصل کرے گا۔ اور تقوی کے حدود کے اندر ہی اسے خرچ بھی کرے گا تو یہ عمل آدیسی کے لئے بہترین زاد سفر ثابت ہوگا، سفر کے دونوں حصوں کے لئے۔ دنیا میں اسے اطمینان اور خوشی حاصل رہے گی اور موت کے بعد بھی وہ خوش اور مطمئن رہے گا۔ تقوی ایک نفسی کیفیت کا نام ہے جس میں آدیسی اپنے ہر قول و عمل کا محتسب بن کر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے حدود سے کہیں تجاوز تو نہیں کر گیا۔ اس سے آدیسی کے دل کو یہ اطمینان و خوشی حاصل رہتی ہے کہ اس نے کوئی جرم یا نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس طرح ایک متقنی شخص کو دونوں قسم کے خوف و هراس سے نجات مل جاتی ہے۔ نہ اس میں مجرمانہ ذہن کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ اس سے اس بات کا خوف باقی رہتا ہے کہ سفر کے آیندہ حصہ میں وہ زاد راہ سے خالی اور بے سہارا رہ جائے گا۔

(۲۲) وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ أَوْ دَانَائِيٍّ كَا سب سے او نچا درجہ عز وجل۔

دانائی اور حکمت اسے کہتے ہیں کہ جو قدم اٹھایا جائے وہ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ہو اور پوری طرح سے سوچ بچار کے بعد اٹھایا جائے۔ ہر قدم مقصود متعین کی طرف اٹھایا جائے اور قبل ہی سے یہ بھی دیکھ لیا جائے۔

کہ اس کے کیا نتایج برآمد ہوں گے۔ اس حکمت اور دانائی کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو خوف الہی سے کسی وقت خالی نہ ہونے دے۔ اگر اللہ کے خوف سے دل خالی ہوا تو یہ عمل بہ ظاہر اور وقتی طور پر حکمت و دانائی تو نظر آسکتا ہے مگر یہ کوئی اونچے درجہ کی حکمت نہ ہوگی۔ مثلاً کسی نے قمار بازی میں یا ریس کے گھوڑوں پر رقم لگائی اور بڑی دانائی سے لگائی، اور اس نے کچھ رقم جیت بھی لی۔ لیکن چونکہ یہ خوف الہی سے خالی دل و دماغ کی پیدا کردہ دانائی و حکمت تھی، اس لئے اس کی نظر اس عمل کے وسیع نقصانات تک نہیں پہنچ سکی۔ اس عمل کو اونچے درجہ کی حکمت و دانائی نہیں کہا جا سکتا۔ اعلیٰ درجہ کی دانائی تو اس وقت ہوتی جب کہ وہ اس عمل کے سارے ہی اثرات پر غور کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتا۔ سود خواری اور قمار بازی وغیرہ وہ مجرمانہ اعمال ہیں جن کے نقصانات سارے معاشرے کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور آخرت میں سود خوار اور قمار باز پر جو عذاب ہوگا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔

اس لئے ہر وقت اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا ہی اصل حکمت و دانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل کے دو قسم کے احکام و قوانین کائنات میں جاری ہیں۔ ایک تو تکوینی قوانین ہیں مثلاً آگ جلاتی ہے۔ پانی ٹھنڈا کرتا ہے۔ آفتاب حرارت و توانائی سہیا کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے تشریعی قوانین ہیں مثلاً کم تولنا گناہ ہے۔ سود خواری ناجائز ہے، قمار بازی حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان دونوں قسموں کے احکام و قوانین کو نظر میں رکھنا اور اللہ کا خوف دل میں قائم رکھنا اصل دانائی ہے۔ جیسے تکوینی قوانین کی خلاف ورزی کرنا حماقت و نادانی ہے بالکل اسی طرح تشریعی قوانین کی خلاف ورزی بھی حماقت و نادانی ہے۔ نتایج و اثرات دونوں قسم کی حماقتوں سے برسے ہی نکلتے ہیں۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم تکوینی قوانین کے اثرات کو دیکھ لیتے

ہیں اور تشریعی قوانین کے اثرات پر غور کرنے سے جی چراتے ہیں - ورنہ چوری، قمار بازی اور مسخواری کے اثرات، آتش زدگی، سیلاہ اور آندھیوں کے نقصانات سے کم تر نہیں ہوا کرتے۔

(۲۵) وَخِيرٌ مَا وَقْرَفَ الْقُلُوبُ الْيَقِينَ۔ اور بہترین چیز جو دلوں میں جاگزین ہو یقین ہے۔

آدمی کے دل میں نہ جانے کتنے ہی قسم کے خیالات آتے ہیں - شک و شبه، وسوسة، خوف، غم، خوشی، لاپرواہی، غفلت، دل میں کیا نہیں آتا - لیکن ان میں سے کوئی چیز اگر قلب انسانی میں جگہ پکڑ لے تو زندگی اجیرن ہو جائے - ان سب کے بخلاف اگر یقین مکمل دل میں جاگزین ہو تو آدمی کو اطمینان اور قوت حاصل ہو جاتی ہے - کسی آدمی کے لئے بے یقینی کی کیفیت سے زیادہ مضر اور تکلیف دہ کوئی اور کیفیت نہیں ہوسکتی، اس سے آدمی کا حوصلہ پست، ارادہ کمزور اور دل اداس ہو جاتا ہے - کسی کام میں جی نہیں لگتا، شدید قسم کا احساس کمتری طاری ہو جاتا ہے - ہر شخص خود اپنی حالت پر غور کر کے یہ معلوم کرسکتا ہے کہ پہلے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد یقین دل میں جاگزین ہوتا ہے - پھر یقین ارادہ پیدا کرتا ہے اور ارادہ اعضا و جواح کو عمل کے لئے حرکت میں لاتا ہے - دنیا میں کسی ذی ہوش آدمی کا کوئی ارادی عمل ایسا نہیں ہوسکتا جس کے پیچھے اس کا یقین محرک کی حیثیت سے کار فرما نہ ہو - اس بائنات میں انسانی اعمال کا مسارا نظام یقین سے وابستہ ہے - آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے یقین، ہی کے ماتحت کرتا ہے - یقین نہیں تو آدمی کا کوئی قدم قوت کے ساتھ نہیں اٹھ سکتا - ایک بچہ اپنی ماں کی صداقت پر یقین کامل رکھنے ہی کی وجہ سے اپنی بہن کو بہن اور اپنے بھائی کو بھائی تسلیم کرتا ہے - ایک مریض اپنے طبیب پر یقین ہی کی وجہ سے اس کی دی ہوئی ذوانی استعمال کرتا ہے - ایک ملازم اپنے افسر کے

بیان پر یقین ہی کی وجہ سے نوکری بجالاتا ہے۔ ایک طالب علم اپنے استاد کے علم پر یقین ہی کی وجہ سے کچھ سیکھتا ہے۔

ان سب سے زیادہ حکم یقین ہمارا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے، ان ہی کے فرمانے سے ہم نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب مانا ہے۔ ان ہی کے ذریعہ ہمیں حق و باطل کے ما بین تمیز حاصل ہوئی ہے۔ تعلیمات نبوی کو چھوڑ کر برائی بھلائی اور خیر و شر کے ما بین امتیاز کا کوئی معیار اگر ہم زندگی بھر تلاش کرتے رہیں تو بھی نہ پاسکیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے بیان کو سچ مانے بغیر باپ، دادا، ماموں اور خالہ، کسی سے رشتہ نہیں قائم کرسکتا۔ کتنی بے عقلی اور نادانی ہے کہ طبیب کی صداقت پر یقین کر کے ہم اپنی جان تو اس کے حوالہ کر دیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں طرح طرح کے میں میکھ نکالنے لگیں۔

انسان کو اپنی حیات کے ہر ہر قدم پر یقین کی ضرورت ہے، یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس کے بغیر نہ ہم قلبی اطمینان پاسسکتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی قدم مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم نہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ دین کے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل میں جاگزین ہونے والی ہر چیز سے بہتر یقین ہے۔

(۲۶) وَ الْأَرْتِيَابُ مِنَ الْكُفَّارِ۔ اور شک و شبہ کفر کی ایک قسم ہے۔

کفر کے لغوی معنی ہیں، اندهیرا۔ اصطلاحاً یہ لفظ دین اسلام سے انکار یا عدم قبول حق کے لئے بولا جاتا ہے۔ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اس کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کفر دون کفر یعنی ایک کفر دوسرے کفر سے کم و بیش بھی ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ

پا یہ عمل کفر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر صورت میں اس عقیدہ یا عمل والا انسان حلقہ اسلام سے مطلقاً خارج ہو گیا۔ بلکہ اکثر صورتوں میں اس کا مطلب صرف اس قدر ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ یا یہ عمل اسلام کے موافق نہیں ہے، بلکہ کفر کے موافق ہے، یا یہ کہ ایک صاحب ایمان مسلمان کے عقیدہ و عمل سے اس کا کوئی توافق ممکن نہیں ۔

اس فقرہ میں کفر سے لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی مراد ہیں۔ اگر کوئی شخص شک و ریب میں مبتلا ہو تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور چونکہ وہ دین اسلام کا بتایا ہوا راستہ قبول کر کے اسے اختیار نہیں کر رہا ہے اس لئے وہ اصطلاحاً بھی کفر کی ایک قسم میں گرفتار ہے۔ اسے تو یہ کر کے شک و ریب کو اپنے دل سے نکال دینا چاہئے تاکہ اسے نفسیاتی رکشماں سے بھی نجات حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ ایک بندہ مقبول کا مرتبہ حاصل کر سکے۔

اگر خداخواستہ کسی کو دین اسلام کے بنیادی عقاید، اللہ، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں، اللہ کی کتابوں اور قیامت ہی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو یہ مطلق کفر ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور دنیا والے بھی اسے مسلمان ہی سمجھیں مگر وہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ اس کو ٹونہ کر کے اپنے دل و دماغ کی اصلاح کرنی چاہئے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے عقاید میں کوئی شک و ریب نہیں ہوتا، اعمال بھی ان کے بڑے نہیں ہوتے مگر ان سب خوبیوں کے باوجود وہ مختلف قسم کے اوہام میں مبتلا ہو کر شک و شبہ کی ظلمتوں میں جا پہنچتے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں کہ انہیں موضوع کرتے ہوئے ہمیشہ یہ شبہ لاحق رہتا ہے کہ خدا جانے وضوع صحیح طریقہ پر ہوا یا نہیں، دوسرے صاحب

ہیں کہ ان کو اپنی ہر نماز کے بارے میں یہ شبہ رہتا ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں - تیسرا صاحب ہیں کہ ان کو اپنے روزوں، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں یہی شبہ رہتا ہے - ایسے لوگ خود اعتمادی سے محروم رہتے ہیں اور ایمان کا سل رکھنے کے بعد بھی کفر کی ظلمت میں گرفتار ہیں - یہ کیفیت مومن کے ذل میں نہیں پیدا ہوئی چاہئے - ہم نے نماز پڑھی اور اپنے علم و دانش کے مطابق بالکل صحیح پڑھی، اس کی قبولیت میں شک کرنا محض وهم بلکہ اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے - ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ ہماری نماز قبول ہوئی اور یقیناً قبول ہوئی - اسی طرح دوسرے تمام دینی و دنیوی اعمال کو شک و شبہ سے بالاتر ہو کر انجام دینا چاہئے اور خواہ مخواہ وہم میں مبتلاع ہو کر بے دل نہیں ہونا چاہئے - ورنہ یہ عادت رفتہ رفتہ خدا اور رسول کی صداقت میں شبہ پیدا کر کے ہمیں عذاب الہی کا مستوجب بنادے گی -

(۲۷) والنیاحة من عمل الجahلیة اور نوحہ کرنا دور جاہلیت کے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے -

کسی کی موت پر غمگین ہونا اور یہ اختیار آنسو نکل پڑنا نہ صرف تقاضائی فطرت ہے بلکہ علامت ایمان بھی ہے - یہ قابل ملات نہیں ہے - لیکن سر پر خاک ڈالنا - سوگواری ظاہر کرنے کے لئے خاص قسم کی وضع یا لباس اختیار کرنا، مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کر کے یعنی کرنا یا ایسی مجلسیں منعقد کرنا جو یعنی کرنے کے لئے ہوں، اسلام سے پہلے عرب کے بت پرستوں میں رائج ایک رسم تھی - اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسندیدہ عمل قرار دیا اور اس سے منع فرمایا ہے - اس جگہ آپ کے فرمان سے مقصود یہ ہے کہ نوحہ گری زمانہ جاہلیت کے مراسم میں سے ایک رسم ہے - اسلام کے بعد اب اسے جاری نہیں رہنا چاہئے -

نوحہ گری کی یہ رسم کافر اقوام میں پہلے بھی موجود تھی اور اب بھی جاری ہے - یورپ میں عام رواج ہے کہ مرنے والے کے تابوت کو سامنے رکھ کر

ایک دردناک تقریر کی جاتی ہے اور لوگ نوحہ کرتے ہیں۔ اس قسم کی تقریر کرنے کے لئے آکھر یہ ہوتا ہے۔ کہ پیشہ ور مقرر اجرت پر بلاۓ جاتے ہیں۔ هندوؤں میں بھی نوحہ گری کی رسم موجود ہے اور اس کو ایک ضروری رسم قرار دیا جاتا ہے۔ اس رسم کی ادائیگی کے لئے برهمنوں کا ایک پیشہ ور گروہ ہوتا ہے جس کو بہت کچھ دے دلا کر رونے اور رلانے کے لئے بلایا جاتا ہے۔ بعض بستیوں میں کچھ خواتین کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے گھر جا کر منہ پر آنجل ڈال کر بین کریں۔ ان کے گھر والے داد دھش کر کے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایشیا اور افریقہ کے مظاہر پرست قبائل میں کچھ مرد اور زیادہ تر عورتیں نوحہ گری کرنے کے لئے ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اور طرح طرح سے بین کر کے روتی اور رلاتی ہیں۔ اس کام کے لئے بعض قوموں میں پیشہ ور عورتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جنہیں اجرت پر بلایا جاتا ہے۔ بلکہ بعض قبائل میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر مردہ پر نوحہ نہیں کیا گیا تو اس کی روح سارے قبیلہ کو طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دے گی۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کی روح کو سکون و اطمینان اس وقت تک نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ اس کی موت پر ایک مدت معینہ تک نوحہ گری نہ کی جائے۔

ظاہر ہے کہ اسلام نے حیات و موت سے متعلق جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان سے نوحہ خوانی اور بین کرنے کا جوڑ نہیں مل سکتا۔ اس لئے آپ نے نوحہ گری کو جاہلیت کی ایک ناپسندیدہ رسم بتا کر اس <sup>عَذَابَ</sup> ممانعت فرمادی۔

(۲۸) **والغلول من حر جهنم**

غلول عربی زبان کا ایک مصیدر ہے جس کے کشی معانی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا اور اپنے سامان میں ملا دینا۔ یہاں یہ لفظ مال غنیمت یا کسی اور قسم کے مال متروکہ کو دوسروں کی نظر سے چھپا کر اپنے قبضہ میں کر لینے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جنگ یا کسی ایسے ہی موقع

پر اس کی بڑی گنجائش رہتی ہے۔ کہ کوئی آدمی کری پڑی چیز کو جلدی سے اٹھا کر اپنے ذاتی سامان میں چھپا لے، دوسروں کو خبر بھی لہ ہونے پائے اور مال اس کے ہاتھ لگ جائے۔

ارشاد نبوی یہ ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی یہ سمجھو لے کہ اس گناہ کی لازمی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ بہ ظاہر تو یہ مال اچھا ہی نظر آتا ہے مگر درحقیقت یہ جہنم کی تپش اور حرارت کا ایک حصہ ہے، جسے وہ اپنے لئے خود اپنے ہی ارادہ اور سعی سے حاصل کر رہا ہے۔

مال متروکہ پر قبضہ کرنے میں کچھ لوگ جس قدر بیباک ہوتے ہیں، شاید اتنے بے باک وہ اور کہیں ثابت نہیں ہوتے ناجائز طور پر جھوٹے دعوں، اور جھوٹی قسموں کے ذریعہ مال متروکہ کے حاصل کرنے کے لئے لوگ کیا کیا نہ ذہانت اور چالاکی کا ثبوت دیتے ہیں۔ کاش ان بدبدیانت اور بے یقین لوگوں کو اس کا یقین ہوتا کہ وہ اس طرح کوشش اور محنت کر کے اپنے لئے جہنم کا عذاب اور دوزخ کی تپش حاصل کر رہے ہیں۔

(۲۹) واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيمٌ وَالسَّكِّرُ كَمِنَ النَّارِ

کسی ایسے آدمی کا تصور کیجئے جسے آگ سے داغ دیا جائے، اس کی حالت شدت الہم سے کیا ہو جاتی ہے۔ اس کی قوت عقلیہ اس درجہ متاثر ہو جاتی ہے کہ حرکات ارادی کی بجائے غیر ارادی حرکات اس سے صادر ہونے لگتی ہیں۔ چیختا ہے، ہاتھ پیر پٹکتا ہے اور ماہی بے آب کی طرح بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلنے لگتا ہے۔ بالکل یہی حالت اس شخص کی ہو جاتی ہے جس پر نہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، لڑکھڑاتا ہے، جھوٹتا ہے، فضول بکواس کرتا ہے، قوت عقلیہ معطل ہو جاتی ہے، خیر و شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، قوت فکریہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، کہیں دیوار سے سر نکراتا ہے، کہیں نا بدان میں جا لیٹتا ہے، ہنستا ہے تو ہنستا ہی چلا جاتا

ہے، روتا ہے تو بڑی بڑی دیر تک روتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ نہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور لہ اس کی کوئی علت۔

چونکہ سکر یعنی نشہ کی کیفیت داغ زدہ کی کیفیت سے تقریباً مشابہ ہوتی ہے اور اس کی اخروی سزا بھی داغ زدہ کے احساس الم سے مشابہت رکھتی ہے، اس لئے سکر کو جہنم کی آگ سے داغ دینے جانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔

### (۳۰) والشعر من أبلیس اور شعر ابلیس کی طرف سے ہے

شعر کلام موزوں و مقفی کے ذریعہ انسانی احساسات و تاثرات کی ترجمائی کا نام ہے۔ یہ ایک شخص کے انفرادی احساس کا اظہار ہے اور انفرادی احساسات صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ اس کی صحت کے لئے کوئی یقینی مند موجود نہیں۔ اس طرح شعر صحیح و غلط کا ایک ممزوج مرکب ہوتا ہے، جس میں اچھی بڑی اور غلط صحیح، سب ہی طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر بیان کرنے کا انداز، تشییہ و استعارہ کی بہتات کنایہ و آیہام کی کثرت اسے عجیب قسم کا معجون مرکب بنا کر رکھ دیتی ہے۔ رہا مبالغہ اور ایسا مبالغہ جس کی سرحدیں کذب و افتراء اور دروغ باقی سے جاہلیتی ہیں۔ تو وہ شعر کو سنجیدہ اور حاصل حقیقت قطعی کلام سے الگ ایک چیز بنا دیتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ احسن اوسٹ اکذب اوسٹ یعنی بہترین شعرو وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔

شعر میں چونکہ حق و باطل کا امتزاج ہوتا ہے اس لئے شعر کو شیطانی کارنامہ یا شیطان کی طرف سے إلهام قرار دیا گیا ہے، اگرچہ عربی زبان کے جاہلی شعروں میں بعض بعض اشعار بڑے سچے اور مبنی برحق بھی مل جاتے ہیں لیکن ان کی تعداد آئیں میں نمک کے برابر بھی نہیں، باقی سارا کلام فسق و فجور فخر، ناپاک اعمال کی کہانی، اور شخصی و خاندانی غرور کے اظہار پر مشتمل ہے۔ یہی حال دوسری زبانوں کے اشعار کا ہے۔ اپنی زبان اردو کے کسی

دیوان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، چند اشعار اگر صحیح ملیں گے تو مینکڑوں اشعار جہوث اور فسق و فجور کی ترجمانی اور کفر و العاد کی تبلیغ کے نظر آئیں گے۔ مثلاً اردو کے عظیم الشان شاعر حضرت غالب دہلوی کے اس شعر کو دیکھئے۔

هم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن  
دل کے بہلانے کو غالب پہ خیال اچھا ہے

اس قسم کے اشعار ہر زبان کے دواوین میں بکثرت ملیں گے۔ اس لئے بعض بعض اشعار کے صحیح ہونے اور بعض بعض شاعروں کے صاحب ایمان و عمل صالح ہونے کے باوجود شعر کو بہ حیثیت مجموعی اور بہ حکم اکثریت شیطانی الہام بتایا گیا ہے۔ اس کی اتباع کر کے کوئی آدمی نہ کامیاب و کامران زندگی بسر کرسکتا ہے اور نہ خالق کائنات کی رضا حاصل کرسکتا ہے۔ رہے وہ اشعار جو صاحب ایمان و عمل صالح حضرات نے کہے ہیں اور ترجمانی حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس حکم سے مستثنی ہیں۔

اور شراب سارے ہی گناہوں کا  
مجموعہ ہے

یہ فقرہ عربی زبان میں بطور ضرب المثل بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شراب سارے ہی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شرابی شراب کے نشہ میں بلکہ شراب کی طلب میں بھی تمام حدود ممنوعہ کو تؤڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے گھر، خانوادہ اور سارے معاشرے کے لئے عذاب عظیم بن جاتا ہے۔ شراب حرام ہے، شراب پینے والا فاسق ہے اور شراب کو حلال سمجھنے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خمر کو قرآن مجید میں شیطانی عمل اور پلیدگی قرار دے کر اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

اے وہ لوگو جو ایمان لاچکر ہو خمر اور جوا اور بتوں کے استھان اور

اور فال کے تیر، اس کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ کہ یہ سب پلید اور ناپاک ہیں۔ شیطان کے کاموں میں سے ہیں، تو ان سے تم دور رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا کہ خمر اور جوا کے ذریعہ تم میں عداوت و بغض ڈال دے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو روک دے۔ پس کیا تم اس سے بازنہ آؤ گے؟ (سورہ المائدہ آیت ۹۰ و ۹۱)

قرآن مجید کا انتہائی شدید انداز بیان یہ ہے کہ بازانے کو کہہ، یہ انداز بیان "حرام قرار دیا گیا، کہنے سے زیادہ تاکیدی انداز کا سمجھنا جاتا ہے۔ خمر (شراب) اور جوئے کو بت پرستی کے ساتھ بیان کرنے سے اس کی شدید حرمت کا بیان مقصود ہے۔ اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ شراب کو حلال سمجھنے والا صاحب ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔

شراب کو سارے ہی گناہوں کا مجموعہ کہا گیا ہے اس کے دو وجہوں ہیں، اول اس شدت طلب کی وجہ سے جو ایک شرابی کو شراب کے لئے لاحق ہوتی ہے اور اس وقت وہ اچھے اور بُرے کی تمیز سے خالی ہو کر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جس کو گناہ یا فسق کہلہ جاتا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ شرابی پر جب نشہ طاری ہوتا ہے تو اس کی عقل اپنا کام کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے اور وہ کسی بُری بات کو بُری بات سمجھتا ہی نہیں، اب اس حالت میں جو عمل اس سے سرزد ہو جائے غیر متوقع نہیں ہے۔

بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر شراب پی کر بھی کوئی آدمی ہوش و حواس سے بے بُرہ نہ ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر عادی شراب خوار تھوڑی سی شراب پی کر ہوش و حواس سے بے بُرہ نہیں ہوتے ہیں تو ایسے آدمی کے لئے شراب کی حرمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بُری شدید غلط فہمی اور حد درجہ کی حماقت ہے۔ احکام انفرادی نہیں ہوا کرتے بلکہ کلی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شراب سے دور رہنے کا حکم دیا

کیا ہے، صرف اس کے نتایج سے بچنے کا حکم نہیں ہے۔ نتایج پیدا ہوں یا نہ ہوں اس سے حکم کا کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔

مثلاً کسی نے جان بوجہ کر بلا عذر سور کا گوشت کھا لیا اس کے بعد اسے کسی وجہ سے متل شروع ہوئی اور سارا گوشت قبے میں نکل گیا، تو اگرچہ تنذیہ جو لازمی نتیجہ اور مقصود ہے خوراک کا، نہ ہوسکا لیکن وہ شخص حرام کھانے کا مجرم تو بہر حال ہو ہی گیا۔ نتیجہ برآمد نہ ہونے کی وجہ سے فعل کی قباحت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یا کسی نے زنا کیا اور زنا سے حمل قرار نہ پاسکا تو نتیجہ برآمد نہ ہونے کی وجہ سے فعل زنا کی قباحت اور برائی میں کمی رہ جائے گی۔ یا کسی نے بد نیت قتل کسی کو گولی مار دی اور گولی نشانہ پر نہ پڑی آدمی بچ گیا تو گولی چلانے والا اقدام قتل کا مجرم ہی ہو گا، بے گناہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔

بالکل اُسی طرح اگر کسی نے ایک گہونٹ شراب پی لی یا زیادہ پی، مگر اس پر نشہ اور بدمستی کی کیفیت طاری نہ ہوئی تو اس سے نہ شراب کی حرمت میں کوئی کمی ہو گی اور نہ اس شخص کا جرم ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بہر حال مجرم ہے۔ چاہے نتیجہ جرم برآمد ہو یا نہ ہو۔

دوسری غلط فہمی اس سلسلہ میں یہ پیدا کی جاتی ہے کہ خمر نام ہے صرف انگوری شراب کا اس لئے ہر طرح کی شراب یا دیگر مسکرات پر اس کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ یہ محض موشگافی اور نکته آفرینی ہے جو رائج ہو گئی ہے۔ اس کی علمی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ عربی زبان میں مادہ خمر کے معنی ہیں ڈھانکنے اور چھپانے کے۔ اسی مادہ سے لفظ خمار سر کو چھپانے والی اور ہنی کے لئے آتا ہے۔ اور اسی سے خمر الشہادة گواہی کو چھپانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ عربی قوامیں میں جہاں لفظ خمر کے معنی انگوری شراب کے لکھے ہیں وہیں کل مسکر مخامر للعقل (ہر نشہ آور شے جو عقل کو ڈھانک۔

لے) بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لئے خمر کا اطلاق ہر نیشہ اور چیز اور اس کے ہر جزء پر ہوگا۔ چاہے وہ شراب ہو یا تازی، چرس ہو یا مذک، بھنگ ہو یا افیون۔ از روئے لفت یہ سب خمر میں داخل ہیں۔ نہ قسم بدلتے ہے حکم بدل بیکتا ہے اور نہ مقدار کی کمی بیشی سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس طرح خطبه نبوی میں اس فقرہ سے مقصود یہ ہے کہ ہر نیشہ اور چیز گناہوں اور معصیتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لئے ہدایت کی جاتی ہے کہ ایسی چیز کے قریب کبھی نہ جاؤ۔

### (۳۲) وَشَرُّ الْمَالِ مَا لِ الْيَتَيمِ

اور بہت ہی برا کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا۔

یتیم کے مال میں صرف وہی مال داخل نہیں ہے جو اس کو وراثہ ملا ہو بلکہ وہ سب مال داخل ہے جو یتیم کے نام پر سرکار سے یا اہل خیر سے حاصل کیا گیا ہو۔ یہ فقرہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو بار بار پڑھنا چاہئے جو کسی یتیم کے ولی ہوں یا جو یتیم خانوں کے ناظم ہوں۔ خطبہ میں اس فقرہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مال حرام اور برمے طریقہ پر حاصل کی ہوئی غذائیں تو اور بھی بہت سی ہوئی ہیں مگر ان میں ایک نہایت ہی بڑی غذا وہ ہے جو کسی یتیم کے مال سے بطور ناجائز حاصل کی جائے۔

ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال ناجائز ذریعے سے حاصل کر کے کھا جاتا ہے تو اس مال کا حقیقی مالک اس کو روکنے اور منع کرنے کی کم از کم صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن یہ چارہ یتیم تو اس کو منع کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اس لئے ایسے مال کو شرالمال کہانے کی بہت ہی بڑی چیز قرار دیا گیا ہے۔

### (۳۳) وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ

اور سعید (خوش نصیحت و کامیاب) وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لے۔

یعنی وہ شخص سعادتمند اور خوش نصیب ہے جس کو براہ راست نصیحت یا تجربہ کی ضرورت نہ ہو بلکہ دوسروں کو دیکھ کر برائی سے احتراز اور بھلانی کو اختیار کرے۔ ”اگلا گرے پچھلا ہوشیار،“ اگر کوئی شخص اگلے کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھئے اور اس کے بعد بھی قدم بڑھانے میں ہوشیاری سے کام نہ لے سکے تو اسے کون سعادتمند اور خوش نصیب کہے گا۔

هم برسے اعمال اور برقی عادات کے نتایج روز اور ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں میں دیکھتے ہیں، ہمسایوں اور ہم چشمومیں دیکھتے ہیں، اور کہاں نہیں دیکھتے، کہیں کثرت سے سکریٹ پینے کے نتیجہ میں گلا مخرب ہوتے اور پھیپھیزوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کہیں فضول خرچی سے کتبوں کو یرباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہیں چغلخوروں اور خوشامدیوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کہیں جہوٹ کی قلعی کھلتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں فریبی اور جعلساز کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا ان سب کو دیکھ کر بھی اپنے خصائیں اور اپنی عادت کو درست کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے؟ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا ہمیں سعید و خوش بخت نہیں بن سکتا۔ جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتا اس پر نصیحت اور تنبیہ کا اثر شاذونادر ہی ہوتا ہے۔

پہلوں کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر  
مرد نادان پر کلام نرم و نازک ہے اثر

(۳۲) والشقي من شقى في بطن امه اور بد بخت وہ ہے جو اپنی مان کے پیٹ ہی میں بد بخت ہو گیا۔

یعنی بد بخت وہ ہے جو شروع ہی سے بد بخت بن گیا ہو۔ عربی زبان میں

انسانی زندگی کے ابتدائی ایام یا ابتدائی غایت اکو ظاہر کرنے کے لئے متعدد طریقے ہیں جن میں سے یہ تین زیادہ مستعمل ہیں۔

(۱) فی بطن امہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے

(۲) مِنْ لَغْوَةِ الْطَّفَارَه ناخن پیدا ہونے کے وقت ہی سے

(۳) مِنْ نَبْتِ شَرْعَه بالا اگئے ہی سے

سعید اور شقی دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یعنی جو معید نہیں ہے وہ شقی ہے اور جو شقی نہیں ہے وہ سعید ہے۔ سعید وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے اور اپنی عادات و خصائیں کو درست کر لے اور شقی وہ ہے جو اپنی بڑی عادت اور ناپسندیدہ خصائیں پر قائم رہے، دوسروں کو دیکھئے اور نصیحت نہ حاصل کرے۔ خطبہ مبارک کے ان فقرہ میں بتایا گیا ہے کہ شقی وہ ہے جو بالکل ابتدائی وقت ہی سے بڑی عادات میں گرفتار ہو۔ اگر اس نے بڑی عادات و خصائیں دوسروں کو دیکھ کر یا کسی اثر کے ماتحت اختیار کر لئے تھے تو یہ اسید کی جاسکتی ہے کہ وہ کسی وقت اس کے بڑے نتایج کو دیکھ کر یا کسی نصیحت کے ماتحت اپنی اصلاح بھی کر لے، لیکن جو ابتداء ہی سے برائی میں مبتلا ہے وہ بڑی مشکل سے اور شاذونادر ہی اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ عادت خود جبکہ بن جاتی ہے۔ وہ ہر صبح و شام بڑے اعمال اور بڑی عادات کے نتایج دیکھتا ہے لیکن عبرت نہیں حاصل کرتا۔ ایک شرابی اپنے یار میکدہ کو مستی میں سر ٹکراتے ہوئے دیکھتا ہے نابدن میں ساری رات پڑا ہوا پاتا ہے مگر کوئی اثر نہیں لیتا۔ ایک جواری اپنے رفیقوں کو سارا سرمایہ ہارتے ہوئے دیکھتا ہے، پولیس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے اور ڈنڈے کھاتے ہوئے بھی پاتا ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا۔

یہ لوگ ہیں حقیقی معنوں میں شقی، بدنصیب اور بدبوخت۔ اب اگر ان میں سے کوئی دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیتا ہے اور تو یہ

کر کے اپنی حالت کو درست کر لیتا ہے تو اس کی شقاوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ سعید ہو جاتا ہے، ورنہ اسی حالت شقاوت میں مر جاتا ہے ریس اور قمار بازی میں چیتا ہوا روپیہ اور شراب فروشی سے حاصل کی ہوئی دولت یہیں رہ جاتی ہے اور وہ بد بخت عذاب قبر میں مبتلا ہو کر تڑپتا رہتا ہے جہاں نہ اصلاح حال کا وقت ہوتا ہے اور نہ توبہ کے لئے کوئی موقع -

(۲۵) وانما یصیر احد کم الی اور تم میں سے ہر شخص بالآخر  
موضع اربعة اذرع والامر الی چار ہاتھ زمین ہی تک پہنچتا ہے  
اور معاملہ آخرت کے سپرد ہو  
الآخرة  
جاتا ہے

رفتم بہ سر تربت محمود غنی پرمیدم کہ چہ بردئی زدنیے دنی  
گفتا کہ دو گز زمین و شش گز کرپاس تو نیز ہمی برى اگر صد چو منی  
(میں محمود غنی کی قبر پر پہنچا تو میں نے پوچھا کہ اس ذلیل دنیا سے  
آپ کیا لے جا سکے انہوں نے جواب دیا کہ دو گز زمین اور چہ گز کپڑا اور  
تم بھی بھی کچھ لے جاؤ گے چاہے مجھ سے سو گنا دولت و حشمت تمہیں حاصل ہو۔)  
اور بہ بھی تو عام حالات کی طرف اشارہ ہے۔ دو گز زمین اور چہ گز کپڑا  
بھی سب کو کہاں میسر آتا ہے هزاروں دریاؤں میں ڈوب کر لاپتہ ہو جاتے ہیں  
اور سینکڑوں جنگلی درندوں کی غذا بن جائے ہیں۔ اور جنہیں اس دنیائے دنی  
سے چہ گز کپڑا دے کر دو گز زمین میں چھپا دیا جاتا ہے انہیں بھی بہ کپڑا  
اور زمین وہاں کیا کام آتی ہے۔

بے بس و تنہا پڑے ناچار جا کر گورہیں  
کچھ نہ ان کے ساتھ دنیا سے گیا الا عمل

(۲۶) وملأك العمل خواتمه اور عمل کی حقیقت اس کے آخری  
حصے ہوتے ہیں۔

عربی زبان میں لفظ ملک کے متعدد معانی ہیں۔ ایک ضرب المثل ہے القلب ملک الجسد (دل بدن پر اقتدار رکھتا ہے)۔ اسی طرح جانوروں کے پاؤں جن پر ایک چوپایہ کھڑا ہوتا ہے، انہیں ملک الدابة کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لسن مٹی کو بھی جس سے کعبہ ریتن، بنا تائی ہے ملک کمتر ہیں۔ اندھہ مٹھا جائے۔ یہاں اس فقرہ کے معنی یہ ہیں۔ کہ عمل کے معاملہ میں اعتبار کسی عمل کے آخری خصوصی کا ہوگا، اوائل و اواسط کا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص جہاد کے لئے گھوسمے نکلا مگر مقصود یہ تھا کہ اس طرح اس کی شجاعت کا سکھ بیٹھ جائے گا۔ لیکن میدان جہاد میں پہنچ کر اس کی نیت بدل گئی اور اب اس کے سامنے رضائی الہی کے سوا کچھ باقی نہ رہا تو اس کا جہاد مقبول بارگاہ خداوندی ہوگا۔ اس کے عمل کے آخری حصہ میں جو اس کا مقصود تھا وہی اس کے عمل کی حقیقت قرار پائے گا۔

ایک دوسری مثال لیجئے۔ ایک آدمی نے کسی پتیم لڑکی کی پرورش و پرداخت کا ذمہ لیا اور صرف رضائی الہی کو مقصود بنانے کر اس کی پرورش کی مگر جب لڑکی جوان ہوئی تو اس نے لڑکی کو فروخت کر دیا یا بذریعہ میں لگا دیا تو اس کے پچھلے اعمال پرورش و پرداخت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ وہ خدا اور قانون دونوں کی نظر میں ایک مستوجب سزا محروم ہی ہوگا۔ بلکہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ آخرت میں اس کے پچھلے اعمال نیک بھی گناہ قرار پائیں۔

ایک مفہوم اس فقرہ کا یہ یہی ہو سکتا ہے کہ عمل کرنے والے کا جس عمل پر خاتمه ہوا ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ اگرچہ یہ بات دوسرے احکام کے اعتبار سے صحیح ہے مگر اس فقرہ سے یہ مفہوم لینا دور از کار تاویل ہوگی۔

(۳۷) و شر الرویۃ الکذب اور یہت ہی پر خواب ہے جھوٹا خواب

خواب کی حقیقت پر اگر ایام این سرین، عبدالغنی نابلسی اور جدید علماء

نفسیات فرایڈ وائڈلر وغیرہ کے افوال کو سامنے رکھ کر بحث کی جائے تو بات بڑی طولانی ہو جائے گی اور حقیقت اس کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آدمی جو کچھ نیند میں دیکھتا ہے اسے خواب کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، خوشخبری یا بشارت، تخفیف، اور تحدیث نفسی وغیرہ۔

اس فقرہ میں خواب کی حقیقت یا اس کی قسموں کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو محض جھوٹے خواب بنانے کر ریان کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے نیند میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اپسے لوگ ہر زمانہ اور ہر ملک میں ہوتے ہیں جو اپنی بزرگی جتنا اور اپنے آپ کو صاحب باطن ظاہر کرنے کے لئے جھوٹے خواب تصنیف فرمایا کرتے ہیں۔ اگر کہیں اتفاقاً ان کا یہ جھوٹ کسی شکل میں سچ ہو کر ظاہر ہو گیا تو پھر اپنی بزرگی اور روشن ضمیری کا اشتہار دیتے ہیں۔ اور اگر یہ جھوٹ جھوٹ ہی رہا کچھ بھی ظاہر لہ ہوا تو پھر طرح طرح کی دور از قیاس و وہم تاویلیں کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

ہمارے اس زمانہ میں بھی اپسے حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بعضوں نے تو جھوٹے خوابوں کے ذریعہ صرف اپنی بزرگی اور صفائی باطن ثابت کرنے ہی پر اکتفاء کی ہے اور بعض حوصلہ مند تو اس طرح کی ابلہ فربی سے اپنی مہدویت اور نبوت تک ثابت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹے خواب تو جھوٹے ہی ہیں۔ خواب اگر سچا بھی ہو تو کوئی قابل اعتماد ذریعہ علم نہیں، نہ شریعت میں قابل قبول ہے، نہ قانون میں نہ تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور نہ عقل مسلیم۔

(۲۸) وکل ماہوآت قریب اور جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے

یہ ایک کلیہ ہے کہ جو وقت آنے والا ہی ہے اسے قریب ہی سمجھہ کر اس کے لئے تیار ہو جانا دانا ہی ہے۔ اور اسے بعد سمجھہ کر غافل رہنا حد درجہ

کی نادانی۔ مثلاً یہ سب کو معلوم ہے کہ بارشوں کے دن آئیں گے، اگر کسی نے بارش کو بہت دور سمجھے کر اپنی ٹوٹی ہوئی چھت کو درست کرنے سے غفلت بر تی تو کوئی دانائی کام نہیں کیا۔ ایک دن یکایک بارش آجائے گی اور اسے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح سردی، گرمی، دن، رات کے آنے پر غور کر لیجئے۔

اگر دنیا کا یہی حال ہے تو اس بے عقل اور احمق کی حالت کس قدر قابل رحم ہے جو موت جیسی یقینی بات کو قریب نہ سمجھے، غفلت میں پڑا رہے اور اس کے لئے کوئی تیاری نہ کرے۔ اس فقرہ میں موت اور ما بعد الموت کی طرف اشارہ ہے۔ ہماری حماقت و نادانی بھی کس درجہ کی نادانی ہے۔ روزانہ لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے اور ضرور آنے والا ہے۔ لیکن حماقت سے یہ سمجھہ بیٹھے ہیں کہ ہماری موت بہت دور ہے، قریب نہیں ہے اس نادانی سے غفلت پیدا ہو گئی ہے اور موت و ما بعد الموت کی طرف سے ہم خود فراموشی میں مبتلا ہیں۔ سب طرح کے سامان کرتے ہیں مگر موت اور قیامت کے لئے کچھ نہیں کرتے۔

آکاہ اپنے حال سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کے ہیں کل کی خبر نہیں  
(۳۹) وسباب المون فسوق۔ کسی صاحب ایمان کو گالی دینا

فسق ہے

(۴۰) وقتاله کفر اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے

(۴۱) واکل لحمدہ من معصیۃ اللہ اور اس کا گوشت کھانا (غیبت کرنا) اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں

(۴۲) وحرمة ماله کحرمة دمه اور اس کے مال کی حرمت اس کے

خون کی حرست کے برابر ہے (یعنی  
اسے بغیر حق قتل کرنا جائز نہیں  
تو بغیر حق اس کا مال لینا بھی  
جائز نہیں ہے)

ان چاروں فقروں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے اور  
خوشگوار زندگی بسر کرنے سے ہے اس لئے ایک ساتھ ہی انہیں نقل کر دیا ہے۔  
ان چار فقروں میں چار بڑی باتوں کے خلاف تنبیہ کی گئی ہے۔

(۱) سباب - یعنی گالی دینا

(۲) قتال - یعنی جنگ کرنا (ایک کا دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش  
کرنا)

(۳) غیبت کرنا (آدمی کا گوشت کھانا کسی کی غیبب کرنے کو کہا  
جاتا ہے)

(۴) ناجائز طور پر کسی کے مال پر قبضہ کر لینا۔

ارشاد نبوی میں مومن کا لفظ ان بڑی باتوں میں برائی کی شدت ظاهر  
کرنے کے لئے آیا ہے۔ جیسے ہم اپنے کسی بچہ کو کہتے ہیں کہ اپنی  
چھوٹی بہن کو مارو نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو تمہاری بہن  
نہیں ہے اسے مارو۔ فعل کی برائی کو شدید ظاهر کرنے کے لئے اپنی  
چھوٹی بہن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مندرجہ بالا فقروں میں  
برائی کی شدت ظاهر کرنے کے لئے المومن کا لفظ آیا ہے۔ ورنہ کافر کو بھی  
گالی دینا، اس سے ناحق جنگ و قتال کرنا، اس کی غیبت کرنا، یا اس کے مال پر  
ناجائز قبضہ کرنا کذناہ ہے اور اس کو اسلامی شریعت میں جرم قرار دیا گیا ہے۔

ان چاروں فقروں کو یاد کر کے جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں۔

تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہمارا کوئی رشتہ تعلیمات نبوی سے اب باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ہم ان چاروں برائیوں میں بڑی طرح مبتلا ہیں۔

(۲۳) وَمَنْ يَتَالِى عَلَى اللَّهِ يَكْذِبُهُ أَوْرَجُوا اللَّهَ كَيْ قَسْمَ كَهَا تَا هَے اللَّهَ اَمْ اَسْ كَوْ جَهْنَلَا دِيتَا هَے

قسم کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والا اپنے قول کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کو شاہد قرار دیتا ہے۔ جب کسی خاص موقع پر اس کی ضرورت ہی لاحق ہو تو قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن بعض لوگ یہ ضرورت اور یہ فائدہ قسم کھاتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ہمیشہ قسم کھایا کرتے ہیں اس لئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قسم میں جھوٹے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں جو مستقبل کے معاملات میں قسم کھالیتے ہیں۔ کیونکہ مستقبل کی صورت کیا ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اکثر ایسے حالات پیش آجاتے ہیں کہ قسم کھانے والا پوری کوشش کے باوجود جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کے معاملہ پر بھی بغیر شدید ضرورت کے قسم نہ کھائی جائے۔ اور مستقبل کے متعلق تو کبھی کوئی قسم نہیں کھانی چاہئے کہ اس میں جھوٹے ثابت ہونے کے شدید خطرات کے علاوہ اور بہت سے گناہوں کی گنجایش موجود ہے، مثلاً وعدہ خلافی، رسوانی وغیرہ۔

(۲۴) وَمَنْ يَغْفِرْ يَغْفِرْ لَهُ أَوْرَجُوا بَخْشَ دِيتَا هَے اَسَے بَخْش دِيَا جَائِي گَا۔

(۲۵) وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ عَنْهُ أَوْرَجُوا مَعْافَ كَرْدِيتَا هَے اللَّهَ تَعَالَى اَسَے مَعْافَ كَرْدِي گَا۔

(۲۶) وَمَنْ يَكْظِمْ الْغَيْظَ يَاجْرِهَ اللَّهُ أَوْرَجُوا غَصَّهُ بَيْ جَاتَا هَے اللَّهَ تَعَالَى اَسَے اَجْرَ دِي گَا۔

(۲۷) وَ مَنْ يَصْبِرْ عَلَى الزُّرْيَهِ اُوْرْ جَوْ حَقْ تَلْفِي پُرْ صَبَرْ كَرْتَاهُ  
يَعْوَضُهُ اللَّهُ تَعَالَى اَسَيْ مَعَاوَضَهُ دَهْكَا

(۲۸) وَ مَنْ يَتَبعِ السَّمْعَهُ يَسْمَعُهُ اللَّهُ اُوْرْ جَوْ شَهْرَتْ كَيْ پِيچَهَهُ پُرْ جَاتَاهُ  
هُهُ اللَّهُ تَعَالَى اَسَيْ كَوْ بَدَنَامْ كَرْ دِيَتَاهُ

(۲۹) وَ مَنْ يَتَصْبِرْ يَضْعُفُهُ اللَّهُ لَهُ اُوْرْ جَوْ بِمَقَابِلَهُ نَقْصَانَ ثَابَتْ قَدَمَ  
رَهْتَاهُهُ اللَّهُ تَعَالَى اَسَيْ كَوْ دُوكُونَهُ  
عَطَا فَرْمَاتَاهُ

(۳۰) وَ مَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ يَعْذِبُهُ اُوْرْ جَوْ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ نَافِرْمَانِي كَرْتَاهُ  
هُهُ اللَّهُ اَسَيْ كَوْ عَذَابَ مَيْنَ ذَالِلَهُ

۵

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار استغفار اللہ کہا اور  
خطبہ ختم کر دیا

یہ ساتوں، آخری فرات کو ایک ساتھ ہی لکھ دیا گیا تاکہ ایک ساتھ  
ان کی مختصر تشریح کر دی جائے۔ لیکن بہتر ہو گا کہ ان سات فقوروں پر غور  
کرنے سے پہلے حسب ذیل مسطور پر بھی غور کر لیا جائے تاکہ ان سے صحیح  
فائہ اٹھا یا جا سکے۔

انسانی زندگی ایک غیر منقطع تسلسل کے ساتھ ایک مرحلہ سے دوسرے  
مرحلہ میں داخل ہوتی۔ ہوئی مقام لازوال تک پہنچے گی۔ یہ موت کے ساتھ  
ختم نہیں ہو جاتی ہے اور نہ پیدائش سے شروع ہوتی ہے اس کی ابتداء اس  
وقت ہوئی تھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا۔ اور ان کی  
ساری اولاد کو حاضر کرنے کے لئے بربکم (کیا میں تھا را رب نہیں ہوں)  
کا سوال کیا تھا۔ اور سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اب اس

کے بعد سے اس دنیا میں پیدا ہونے تک انسان جس عالم میں رہتا ہے، اسے مختلف لوگوں نے مختلف نام عطا کئے ہیں۔ بعض اسے عالم مثال سے موسم کرتے ہیں اور بعض اسے عالم اقرار یا مرحلہ اول قرار دیتے ہیں۔ دوسرا عالم یہ دنیا ہے جہاں انسان پیدائش کے ذریعہ تدریجی طور پر داخل ہوتا ہے، یہ عالم شہادت یا عالم تخلیق یعنی مرحلہ دوم ہوا۔ تیسرا عالم بزرخ ہے جہاں انسان موت کے ذریعے تدریجی طور پر داخل ہوتا ہے۔ یہ عالم بزرخ یا عالم حجاب کہلاتا ہے۔ یہ مرحلہ سوم ہوا۔ چوتھا عالم عالم قیامت ہے جہاں سارے ہی انسان بہ یک وقت داخل ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے مرحلہ اول میں سارے ہی انسان بہ یک وقت پیدا کردئے گئے تھے۔ یہ مرحلہ چہارم ہے، اور یہ مقام لازوال ہے۔ جنت یا دوزخ میں کسی کو موت نہیں آئے گی اور نہ اس عالم سے کسی دوسرے عالم میں منتقل ہونا پڑے گا۔

ان چاروں عوالم یعنی مثال، شہادت، بزرخ، اور قیامت میں انسان کی کیفیت اور اس کے قوی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے ان چاروں عوالم میں انسان کے کام اور زندگی کے اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم اپنی موجودہ یعنی عالم شہادت کی زندگی پر باقی تین مرحلوں کو قیاس کر لیں۔ بلکہ صحیح طریقہ ان کے معلوم کرنے کا یہ ہے کہ خدا نے جس کو خبر دی ہو، اس سے پوچھیں۔ یہی طریقہ فطری اور حقیقی ہے۔

هر شخص خود اپنی ذات پر اچھی طرح غور کرے، یہ حقیقت کھل کر ماننے آجائے گی کہ ہمارے پاس علم کے ذرایع صرف تین ہیں اول خبر، دوم استدلال، سوم مشاهدہ۔ ان میں سے سب سے زیادہ وسیع ذریعہ علم خبر ہے۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کا تقریباً ۳۰% فیصد خبر کے ذریعہ حاصل شدہ علم ہے۔ ماں باپ کی دی ہوئی خبریں، استاذ اور احباب کی دی ہوئی خبریں، ڈاکتروں عالموں اور ماہرین کی دی ہوئی خبریں ہی وہ ذرایع ہیں جن میں سے ہم

رشتوں ناطوں کا، علوم و فنون کا، صحت و سقم کا اور عام حالات کا علم حاصل کرنے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اس طرح حاصل شدہ علم سے یقین پیدا ہوتا ہے اور ہم اسی پر زندگی بسر کرنے ہیں۔ ماں باپ کی دی ہوئی خبروں پر یقین رکھتے ہیں۔ بھائی کو بھائی، بہن کو بہن اور چچا کو چچا مانتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارا یقین اتنا حکم ہوتا ہے کہ شک اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح اساتذہ کی دی ہوئی خبروں، ڈاکٹروں اور عالموں کی دی ہوئی خبروں سے بھی ہمیں علم اور یقین حاصل ہوجاتا ہے۔

اگر عملی زندگی میں ہمارا یہی حال ہے اور یقیناً یہی حال ہے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں سے علم اور یقین حاصل نہ کرسکیں حالانکہ وہ انسانی اعمال اور اس کے اخروی نتایج کی جو خبر دیتے ہیں وہ انھیں نہ صرف وحی الہی کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے بلکہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا ہے تاکہ وہ عینی شاہد کی حیثیت سے دنیا کو خبر دیں۔ اور ان کے صادق امین ہونے کا اقرار دوست تو دوست ان کے شدید دشمنوں نے بھی ہمیشہ کیا ہے۔ اب اس شخص کی حماقت و نادانی کو کیا کہنے جو کسی ڈاکٹر کے کہنے سے زہریلی اور تلغخ دوا تو کھا لیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ دوا اس کے لئے مفید ثابت ہوگی مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں عمل صالح نہیں اختیار کرتا۔ اور اسے اس کا یقین نہیں حاصل ہوتا کہ یہ عمل اس کے لئے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ مفید ثابت ہوگا۔

یہ یقین پیدا ہونے کے بعد کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جنہیں نتایج اعمال کی اطلاع نہ صرف بذریعہ وحی و نبوت دی گئی ہے بلکہ آپ نے ان نتایج کا مشاہدہ شب معراج میں خود اپنی آنکھوں سے بھی کیا ہے

اور جن کی صداقت پر دوست، دشمن بلکہ آسمان و زمین گواہ ہیں۔ اب مندرجہ بالا ساتوں فقروں پر غور کیجئے۔

(۱) پہلے فقرہ میں خبر دی گئی ہے کہ جو دوسروں کے قصور کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قصور کو بھی بخش دے گا۔ عربی زبان میں غفر کے معنی ہیں چھپا دینا اور سزا سے بری کر دینا۔ اسے ہم اردو میں بخش دینے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی کوتاہیوں اور قصوروں کو چھپا دین اور ان کو سزا دینے کے پیچھے نہ پڑ جائیں تو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ صلحہ ملے گا کہ ہمارے قصوروں کو بھی اللہ غفور و رحیم چھپا دے گا اور ہمیں سزا سے بری کر دے گا۔ ذرا خود اپنی حالت پر غور کریں، ہم دوسروں کے قصور کا اعلان کرنے اور اس کو سزا دینے کے لئے تو ہمیشہ ہی تیار رہتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ خود ہم بھی تو قصوروار ہیں، اگر ہمارے ساتھ یہی ایسا ہی معاملہ دنیا و آخرت میں کیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔

(۲) دوسرے فقرہ میں خبر دی گئی ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ عربی میں عفو کے متعدد و متضاد معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے نشان کا مٹا دینا۔ یہاں یہی معنی مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ اس کی خطأ کا نشان مٹا دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی خطاؤں کے اثرات کو مٹا دے گا۔

(۳) تیسرا فقرہ میں خبر دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے غصہ کو پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل صالح کا اجر یعنی مزدوری عطا فرمائے گا۔ گویا یہ عمل اللہ کی هدایت پر ایک عبادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے غصہ پر قابو رکھنے والا اور غصہ کو پی جانے والا مستحق اجر قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ اس عامل کو کیا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

قرآن مجید کی ایک آیت میں غصہ کو پی جانے والے اور قصور معاف کر دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے محسن (احسان کرنے والا نیکوکار) قرار دے کر اپنی پسندیدگی اور محبت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

الذين ينفقون في السراء والضراء ايسے لوگ جو خرج کرتے ہیں،  
والكافرين الغيظ و العافين عن فراغت میں اور تنگی میں اور غصہ  
الناس واللہ یحب المحسنين (آیت کو پی جانے والے اور لوگوں کو  
معاف کر دینے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نمبر ۱۳۲ سورہ آل عمران)  
احسان کرنے والوں سے محبت  
کرتا ہے۔

قادر مطلق جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے جس شخص کو پسند کرے گا اور اس سے محبت فرمائے گا تو اسے کیا کچھ نعمتیں عطا کرے گا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

(۴) چوتھے فقرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو شخص حق تلفی پر صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے معاوضہ دے گا۔ عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے معاوضہ ملے اور اس کے حق سے بہت زیادہ ملے۔

(۵) پانچویں فقرہ میں یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ جو شخص اپنی شہرت و ناموری کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رسموا اور بدنام کر دیتا ہے۔ اس فقرہ میں غور کرنے سے یہ سمجھہ میں آتا ہے کہ شہرت کی خواہش اگرچہ اپنی جگہ پر ایک بڑی خواہش ہے لیکن رسمائی اور بدنامی سزا ہے شہرت طلبی اور اس کے پیچھے لگ جانے کی، شہرت کی خواہش کی نہیں ہے۔

آدمی شہرت طلبی کے پیچھے پڑ کر کس طرح اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کے نمونے آپ کو اپنے معاصرین اور خصوصیت کے ساتھ پیشوائی

و قیادت کے دعویداروں میں بہ کثرت مل جائیں گے۔ یہ دون فطرت اور کمینے مرشدین، مقتدايان اور قائدین ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں شہرت حاصل ہو۔ ان کی ذہنیتیں اس قدر پست ہو جاتی ہیں کہ ان کے اقوال کا معیار عوام کی طرف سے پسندیدگی اور ناپسندیدگی بن جاتا ہے۔ وہ اپنے کسی قول یا عمل سے پہلے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں ہے یا نہیں ہے بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ عوام اسے پسند کریں گے یا ناپسند۔ اس طرح وہ اللہ کے خوف سے روز بہ روز عاری ہوتے رہتے ہیں اور ان کے قلوب غیر اللہ بلکہ بندوں کے خوف سے بھرتے جاتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن حساب کا خیال دل سے محو کر کے اس کی جگہ انتخاب کے دن کو دے دیتے ہیں۔ وہ نیکی کے بیسوں کام کرتے ہیں لیکن ان سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں بلکہ اپنی شہرت و ناموری ہوتی ہے۔

شہرت کی خواہش آدمی کی ایک ذہنی کمزوری ہے۔ لیکن شہرت طلبی کے پیچھے لگ جانا تو اکثر صورتوں میں آدمی کو نفاق کے پست مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا رسوائی اور بدناسی مقرر ہے، بہت سے لوگوں کو تو اسی دنیا میں رسوائی اور بدناسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ اور بعض وہ شہرت طلب لوگ ہوتے ہیں جن کی رسوائی و بدناسی کا دور شروع ہونے سے پہلے ہی موت آکر ان کی بساط شہرت کو الٹ دیتی ہے۔ بہرحال ان دونوں اقسام کے طالبان شہرت کو قیامت کے بھرے میدان میں رسوائی و بدناسی کی مزا سے گذرا ہی پڑے گا۔ اس لئے کہ طلب شہرت کے پیچھے لگ جانے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقرر ہے

اے هنرها نہادہ برکف دست عیب ہا را نہفتہ زیر بغل

لوگوں کا بھی عجیب حال ہے ہتیلی پر رکھ کر اپنے هنر دکھاتے پھرتے ہیں اور اپنے عیب کو بغل میں چھپائے رہتے ہیں۔

(۶) جہٹے فتروں میں بتایا گیا ہے۔ کہ جو شخص اپنے کسی نقصان پر صبر کرتا ہے، یعنی اس پر واویلا نہیں کرتا، دل پر جبر کر کے برداشت کر لیتا ہے خدا کا شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ضایع شدہ نعمت سے دو گونہ نعمت عطا فرمانا ہے۔ یہ ہماری بڑی کمزوری اور ناشکری ہے کہ اپنے ذرا سے نقصان پر واویلا کرنے لگتے ہیں اور خدا کا شکوہ اس طرح کرتے ہیں جیسے خدا نے کبھی ہمیں کچھ نہ دیا ہو۔ اب تک جو جو نعمتیں خدا نے عطا فرمائی ہیں، سب کو بالائی طاق رکھ کر ذرا سے نقصان پر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا بڑی کم ظرفی اور احسان فراموشی ہے۔ ایک بندہ مومن کو ایسے موقع پر صبر اختیار کرنے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو گونا عطا فرماتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے دلی سکون و اطمینان کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بندہ مومن اللہ کی رضا کے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔

الله تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور  
رضی اللہ عنہم و رضوانہ  
(آیت نمبر ۸ سورہ البینة) اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے

(۷) ساتویں اور آخری فقرہ میں ایک ساتھ ہی تنبیہ بھی ہے اور بشارت بھی۔ تنبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ سمجھنا کہ اس کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ صحیح نہیں۔ البتہ بھول چوک، بے خیالی اور غفلت سے جو قصور سرزد ہو جائے وہ توبہ و ندامت سے معاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں دے گا۔ شاید یہی بات سمجھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری فقرہ پر خطبہ کو ختم فرمانتے ہوئے تین بار استغفار اللہ کہا۔ جن کو اگلے پچھلے سارے ہی گناہوں کے بخش دئے جانے کی خبر دی جا چکی تھی، ان کا بہ کثرت استغفار اللہ کہنا اور بخشش کی دعا کرنا تعلیم و تاکید کے سوا اور کسی مقصد کے لئے ہو سکتا ہے؟

حوالہ : اصل خطبہ تبوک

زاد المعاد فی هدی خیر العباد مصنفہ امام شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ  
”المتوفی ۱۴۰۵ھ مطبوعہ المطبعة“، العینیۃ، القاهرہ، ۱۳۲۳ھ ج ۲ ص ۷ -

# خطبہ تبوک

(حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک)

بمقام تبوک - عزوفہ تبوک رجب ۱۴۹)

مترجمہ از  
سید عبد القدر مسیحی

اجراہ تحقیقات اسلامی

اسلام آباد